



# خطاب

جلد ستم



پیر طریقت، رہبر شریعت، مفکرِ اسلام

وَاشْكُرُوا لِي  
علم کی فضیلت  
علم اور علمائی شان  
ایمان کی عظمت  
اسلام کے محافظ  
استقامت کی فضیلت  
وہ جو یحییے تھے دوائے دل  
اخلاق حمیدہ

حضرت مولانا پیر ذو الفقار احمد نقشبندی ناظم

223 سنت پورہ، فیصل آباد  
+92-041-2618003

مکتبۃ الفقیہ



جلد هشتم

زفاف  
حضرت مولانا پیر والفقیر احمد نقشبندی مجددی ظلی



محمد حنیف نقشبندی مجددی


223 سنت پورہ فیصل آباد

+92-041-618003

مکتبہ الفقیر

جملہ حقوق محفوظیں

نام کتاب	خطبات فقیر جلد هشتم
از افادات	خطب و دروس فقیر شاہ نصیر
مرتب	مولانا محمد حنفی نقشبندی مجددی
ناشر	محشیۃ الغیثیہ
	سنبھل آباد 223 سنبھل آباد
اشاعت اول	ستمبر 2002ء
اشاعت دوم	جولائی 2003ء
اشاعت سوم	اگست 2004ء
اشاعت چہارم	جون 2005ء
اشاعت پنجم	جون 2006ء
اشاعت ششم	اپریل 2007ء
اشاعت هفتم	فروری 2008ء
اشاعت هشتم	ستمبر 2009ء
اشاعت نهم	مئی 2009ء
اشاعت گیارہ	اگست 2010ء
تعداد	1100
پیوڑ کپوزنگ	فقیر شاہ نصیر



# فہرست

نمبر شمار	عنوان	نمبر شمار	عنوان
صفحہ نمبر		صفحہ نمبر	
31	بھکاری عورتوں کا مقدار	13	عرض ناشر
32	اپنی اوقات کونہ بھولیں	15	پیش لفظ
32	ایک بے ادب کی سرزنش	17	<b>واشکروں!</b>
32	ایک سبق آموز حکایت	19	دور حاضر میں باری نعمتوں کی بہتان
36	تکبر کا بول	20	ناشکری میں اضافہ
36	میز کے دوسری طرف	21	زیادہ کھا کر منے والے
37	ایک زریں اصول	21	اللہ تعالیٰ کا حلم
37	تکبر کی سزا	21	پہلی بڑی نعمت
39	شکر کا منہوم	22	صحیح سالم اعضا
40	احساس شکر پیدا کرنے کی ضرورت	23	لو فکریہ
41	لسانی شکر	23	دوسری بڑی نعمت
42	جسمانی شکر	24	تیسرا بڑی نعمت
42	نعمتوں کی بقا کا آسان طریقہ	25	نعمتوں کا شمار
43	قوم سبا کا عبرت ناک انجام	25	بہترین نظام عصبی
44	بھوک ننگ اور خوف کا لباس	27	غذا کی نالی کا والو
45	ہمارے ٹکووں از علاج	27	لینے سے محروم ہونے والے ڈاکٹر
46	ٹکوے کی پنی	28	آنکھ کا دا پنیر
47	میاں بیوی کے ٹکوے	29	دمد کے مریضوں کی بے چینی
47	شکر نے والے سائل کی وجہی	29	پیالہ بھرپانی کی قیمت
48	شکر نے والی بیوی کا مقام	30	اولا دوالی نعمت

# فہرست

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
64	ایک اہم نکتہ		50	ایک دلچسپ نکتہ	
66	سیدنا داؤدؑ اور زرہ ہنانے کا علم		50	حج کے موقع پر اظہار تسلیم	
67	سیدنا سلیمانؑ اور پرندوں سے ہمکلام ہونے کا علم		52	ہمارے دلوں میں اسباب کی اہمیت	
68	ہدھد پرندے میں علم کی وجہ سے جرأت		52	حضرت موسیٰ اور شکر انٹی	
			53	رزق پہنچانے والا آدا کیا	
			55	<b>علم کی فضیلت</b>	2
68	آصف بن برخیا کا مقام		55	عارضی اور داعیی زندگی	
69	حضرت خضر علیہ السلام اور امور محکومیت کا علم		56	سیدنا آدمؑ کی فرشتوں پر برتری	
70	عبدات کی تمجیل		57	سیدنا آدم علیہ السلام کا انعام	
70	علم کا مقام		57	تجده کرنے میں حضرت اسرائیل کی پہلی	
72	علمائے کرام کا فرض منصی		57	دواہم باتیں	
73	علم کا مقصود		58	علم کا مقام	
73	اخلاص کا تاج محل		59	سیدنا آدمؑ اور صنعت و حرفت کا علم	
74	فیض کے چلنے کی ایک اہم شرط		59	سیدنا اور لیٹ اور کتابت کا علم	
74	حضرت مولانا محمود الحسن کافیض		60	سیدنا نوحؑ اور حلال و حرام کا علم	
75	حضرت مولانا غلام رسول پونزوری کا مقام		60	لباس شریعت کی تمجیل	
			61	انجیائے کرام اور تخصیص علوم	
77	حضرت خواجہ عبداللہ بہلویؒ کافیضان		61	حضرت ابراہیمؑ اور علم مناظرہ	
78	محنت کی چلی		63	سید نبوی سفؑ اور خوابوں کی تعبیر	

# فہرست

نمبر شمار	عنوان	نمبر شمار	عنوان
صغیر نمبر		صغیر نمبر	
99	علمی سوال کی فضیلت	78	احسان خداوندی
101	حصول علم کیلئے مجاہدہ ضروری ہے	79	آخر کے فیصلے
102	اکابر کا شغف علمی	80	شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن گی
102	امام شافعی کا علمی شغف		استاد امانت
103	امام مسلم کا مطالعہ میں استغراق	85	علم اور علماء کی شان
103	حضرت شاہ عبدالعزیز کا علمی انشاہک	87	قدرت کا شاہکار
104	آج کے طلباء کی حالت	88	مقصد زندگی
105	وحدت مطلب	89	ولایت کی درجات
106	اساتذہ کی قدر	89	علم و عمل کی سعادتیں
108	چے طالب بنیں	90	حصول علم کی فطری جذبہ
109	ایک عالم اور عام آدمی کی توبہ میں فرق	91	اعضاء کی تقسیم
109	اللہ کے لاذے	92	طالب علم کی فضیلت
110	علم کو عمل کے سانچے میں ڈھالیں	92	علماء کی شان
110	اکابر کا علم پر عمل	94	عصری تعلیم اور دینی تعلیم
113	ایک چھوٹی بھی کی صحیت	94	علم پر عمل
115	ایمان کی عذالت	95	دنیا کا سورج اور علم کا سورج
117	ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کا حکم	4 96	عالم کی عابد پر فضیلت
		96	جنت میں بھی علماء کی سرداری
		97	عالم کی نیزد بھی عبادت
			عالم کی شہید پر فضیلت

# فہرست

نمبر	عنوان	نمبر	عنوان
134	آزمائش میں ڈالنے کا مقصد	118	اقرار اسلامی اور تصدیق قلبی
134	ایمان کا امتحان	118	کردار کے عازی بخے کی ضرورت
135	رزق کے دروازے بند ہونے کی اصل وجہ	119	ایمان کی نشاندہی
135	آزمائش کو خدا پیشانی سے قول کیجئے	119	معاملات ہوں تو ایسے لمحہ فکریہ
136	سیدنا موسیٰ کی والدہ کا ایمان افزوز واقع	120	ایمان کا مقام
141	دو گناہ انعام	121	ایک وچھپ حکایت
141	ایمان کی حفاظت	122	ایمان اور مشاہدہ میں فرق
141	اللہ والوں کی استقامت	123	ایک سبق آموز حکایت
143	صفہ نازک کی استقامت	126	سب سے زیادہ عجیب ایمان
145	سب سے بیتی دلت	128	استقامت کی اہمیت
146	ایک نوجوان کی استقامت	128	زندگی گزارنے کے دو طریقے
147	صحابہ کرام کے نزدیک ایمان کی قدرت	129	پہلی مثال
148	وقت کی ایک اہم ضرورت	130	دوسرا مثال
148	ٹک سے بچنے کی ضرورت	131	تیسرا مثال
149	ایمان کے اعماق کرنے کا طریقہ	132	اللہ کے حکموں کے ساتھ چھت جائیں ۔
149	مضبوط ایمان کی نشانی	132	انسان اور آزمائش
		133	ہر حال آزمائش کا حال
		133	اویتے بدلتے دن

# فہرست

نمبر شار	عنوان	نمبر شار	عنوان	
سنونبر	عنوان	سنونبر	عنوان	
162	بی اے پاس لڑکی کی زیوں حالی		150	ایمان جیسے چنان
163	ماں باپ کے خلاف مقدمہ		151	نقت اور کثرت کا پکڑ
164	خفاہت دین کی اصل وجہ		151	اسلام اور ایمان کی کیفیات
164	نی اکرم ﷺ کی ولاداری			میں فرق
165	ابو جہل کو دعوت اسلام		152	منافقین کا احسان جتنا نے کا واقعہ
165	صبر کی انتہا		153	<b>دین اسلام کے محافظ</b>
166	بیٹی ہوتا لئی		155	سعادتوں کا مخزن
167	حضرت بلاں پر ظلم و تم		155	انحطاط کا دور
167	سیدہ زینہ پر ظلم و تم		155	صحابہ کرامؓ کی گواہی
168	دشمنان دین کے سامنے سیسے پھائی		156	نبی ﷺ کے علم عمل کے محافظ
	دیواریں		157	آقا اور علامہ حسین کن مہماں
168	حضرت سعید بن جبیرؓ کی		157	حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور اتابع
	استفافت			سنت
169	امام اعظم ابوحنیفہ پر ظلم و تم			فرمان نبوی ﷺ کا الحاظ
169	امام مالکؓ کی جرأت		158	ایک جیشی صحابیؓ اور اتابع سنت
169	امام احمد بن حنبل پر ظلم و تم		159	ہمارا علمی شجرہ
170	چماگ ایمان کی ضوفخانی		159	علمائے کرام کا فرض منصی
170	رسنگر میں فرنگیوں کے ظلم و تم کی		160	
	انتہاء		161	تو جوان نسل

# فہرست

نمبر شمار	عنوان	نمبر شمار	عنوان
187	صحابہ کرامؓ کی آزمائش	172	ایک پر تشدید سفر
187	گرتے وقت تھامنے والی ذات	174	ایک مبرآزمالحہ
188	استقامت کے سامنے پہاڑ کی حیثیت .	175	تعلیم نسوان کی اہمیت
189	صحابہ کرامؓ کی فتوحات کاراز	175	لڑکوں کے بگاڑ کی وجہ تعلیم نسوان میں ایک بڑی
190	اللہ تعالیٰ کی مدد آنے کی نشانی		رکاوٹ
190	غزوہ احزاب میں کفار کی رسوائی	176	وراثت نبوی ﷺ کی حفاظت
191	ایمان کی جانچ پڑتاں کا وقت	177	مسلمانوں کی کمزوری حفاظت دین کے قلعے
193	حضرت خالد بن ولیدؓ کی جو اندر دی	179	<b>استقامت کی فضیلت</b>
	"متوح الشام" کا مقام	181	شریعت پر چلنے میں تمن رکاوٹیں
194	علامہ کرامؓ کی ذمہ داری	183	استقامت کا مفہوم
196	لوہے کے پتے	183	مشائخ کے ساتھ نسبت کی برکات
196	اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ	184	درخت کے ساتھ ایک عجیب مقالہ
197	حضرت ضرار بن ازورؓ کا جہاد		نی اکرم ﷺ کو استقامت کا حکم
198	حضرت خولہؓ کی بہادری	185	قرآن اور عزت
200	محوزے کی استقامت	186	صحابہ کرامؓ اور اسہاب
201	نصرت الہی کے وعدے	186	

6

# فہرست

نمبر شمار	عنوان	نمبر شمار	عنوان
صفر نمبر	عنوان	صفر نمبر	عنوان
217	صحابہ کرام پر وصال نبوی ﷺ کا اثر		201 چنان بننے کی ضرورت
218	اسوہ رسول اپنانے کی تلقین	202	حضرت مشاطرؑ کی استقامت
219	انقلاب لانے والی شخصیات کا طریقہ	203 206	حضرت آسیہؓ کی استقامت حضرت مشاطرؑ کا انعام
219	سیدنا صدیق اکبرؓ کا بصیرت آموز خطاب	207 208	حضرت آسیہؓ کا انعام رحمت الہی کا سہارا
221	ہماری ذمہ داری	209 212	<b>دو جو بیجتے تھے دلے دل</b> ایک عظیم صدمہ
224	حضرت مرشد عالمؒ کے آخری لحاظات کی ہے جملہ	212	رحمت الہی کا پھرہ
224	قرآن سے تعلق جو دیں	212 213	حفاظت کیلئے ایک مسنون دعا شیخ کی جدائی کافم
225	حضرت مرشد عالمؒ کی تعلیمات کا پیروز	213 213	محبت ہوتا ہے.....!!! ایمان کی بہقا کا ذریعہ
227	دل کے زخم کے لئے مرہم	214 215	بیڑا اور مرید کی لازوال محبت حضرت یعقوب علیہ السلام کافم
229	<b>اخلاق حمیدہ</b>	8 216	مولانا رشید احمد گنگوہیؒ پر شیخ کی وقات کا اثر
231	اچھے اخلاق والے انسان کا مقام	216	تابعہ عصر شخصیت
232	اچھے اخلاق کمال ایمان کی علامت ہیں	217	حضرت مرشد عالمؒ کے لیل و نہار کی ایک جملہ

# فہرست

نمبر شار	عنوان	نمبر شار	عنوان
صونبر	عنوان	صونبر	عنوان
245	غلطیوں کی تلاش	233	سب سے بہترین چیز
246	ستر پوشی کی فضیلت	233	کردار کی فتح
246	مؤمن کے دل کو خوش کرنے کی فضیلت	234	اخلاق کے مراتب
247	زبان کی آفتیں	234	پہلا مرتبہ
248	بدزبانی کا انجام	235	دوسرा مرتبہ
248	غصہ پینے کی فضیلت	236	تیسرا مرتبہ
249	بیوی سے حسن سلوک کا بدلہ	237	دین اسلام کا حسن
249	تریت کا فتدان	237	دنیا میں بھائی کی اہمیت
250	محبت کا اثر	238	آخرت میں بھائی کی اہمیت
252	غور طلب بات	238	ہماری سردمہری
252	خواجہ نظام الدین اولیاء کی قصوت	239	جنگزوں کا خاتم
.		239	صلہ و رحمی کا حرم
		241	قطے و رحمی کا انجام
		241	بے مثال کروار
		242	خیر خواہی کی تعریف
		242	دین اور خیر خواہی کا علازم
		242	مؤمن اور خیر خواہی
		243	عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کی قیمت
		244	بندہ و مؤمن کا مقام



## عرض ناشر

الحمد لله لوليه والصلوه والسلام على نبيه وعلى آله  
وصحبه واتماعه اجمعين الى يوم الدين . اما بعد !

محبوب العلمااء والصلحاء حضرت مولانا مير ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی  
دامت برکاتہم کے علوم و معارف پر بنی بیانات کو شائع کرنے کا یہ سلسلہ خطبات  
فقیر کے عنوان سے 1996ء میں شروع کیا تھا اور اب یہ آٹھویں جلد آپ کے  
ہاتھوں میں ہے۔ جس طرح شاہین کی پرواز ہر آن بلند سے بلند تر اور فزوں سے  
فزوں تر ہوتی چلی جاتی ہے کچھ یہی حال حضرت دامت برکاتہم کے بیانات  
حکمت و معرفت کا ہے۔ جس بیان کو بھی پڑھیں گے ایک نئی پرواز فکر آئینہ دار ہو  
گا۔ یہ کوئی پیشہ و رانہ خطاب یا یاد کی ہوئی تقریریں نہیں ہیں بلکہ حضرت کے دل کا  
سوز اور روح کا گداز ہے جو الفاظ کے سانچے میں ڈھل کر آپ تک پہنچ رہا  
ہوتا ہے۔

الحمد لله کہ ادارہ مکتبۃ الفقیر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت دامت برکاتہم  
کے ان بیانات کو کتابی صورت میں استفادہ عام کے لئے شائع کرتا ہے۔ ہر  
بیان کو احاطہ تحریر میں لانے کے بعد حضرت دامت برکاتہم سے اصلاح کروائی  
جاتی ہے، پھر کپوزنگ اور پروف ریڈنگ کا کام بڑی عرق ریزی سے کیا

جاتا ہے اور آخر پر پرنگ اور بائینڈنگ کا پیچیدہ اور تکنیکی مرحلہ آتا ہے، یہ تمام مراحل بڑی توجہ اور محنت طلب ہیں جو کہ مکتبۃ الفقیر کے زیر اہتمام سر انعام دیئے جاتے ہیں پھر کتاب آپ کے ہاتھوں میں پہنچتی ہے۔ قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اشاعت کے اس کام میں کہیں کوئی کمی یا کوتاہی محسوس ہو یا اس کی بہتری کے لئے تجاوز رکھتے ہوں تو مطلع فرمایا کہ عند اللہ ما جور ہوں۔

بارگاہ ایزدی میں یہ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں حضرت وامت برکاتہم کے ان بیانات کی بازگشت پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائیں اور اسے آخرت کے لئے صدقہ جاریہ بنائیں۔ آمين بحرمت سید المرسلین ﷺ

ڈاکٹر شاہد محمود نقشبندی عفی عنہ  
خادم مکتبۃ الفقیر فیصل آباد



الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان و شرح صدور  
الصادقين بالتوحيد واليقان و صلى الله تعالى على خير خلقه  
سيدنا محمد و على أله أصحابه أجمعين . أما بعد

اسلام نے امت مسلمہ کو ایسے مشاہیر سے نوازا ہے جن کی مثال دیگر  
مذاہب میں ملتا مشکل ہے۔ اس اعتبار سے صحابہ کرام صفا اول کے سپاہی  
ہیں۔ جن میں ہر سپاہی الصحابی کا الخوم کے مصدق اپنے ہوئے ستارے کی مانند  
ہے، جس کی روشنی میں چلنے والے اہتدیتم کی بشارت عظیٰ سے ہمکنار ہوتے  
ہیں اور رشد و ہدایت ان کے قدم چوتھی ہے۔ بعد ازاں اسی اسی روحاںی  
شخصیات صفحیہ ہستی پر رونق افروز ہوئیں کہ وقت کی ریت پر اپنے قدموں کے  
نشانات چھوڑ گئیں۔

عہد حاضر کی ایک نابغہ عصر شخصیت شہسوار میدان طریقت، غواص دریائے  
حقیقت، شیع اسرار، مرقع انوار، زاہد زمانہ، عابد یگانہ، خاصہ خاصان نتشیند،  
دامت بر کا حجم العالی مادامت النہار والیاں ہیں۔ آپ منشور کی طرح ایک اسی  
پہلو دار شخصیت کے حامل ہیں کہ جس پہلو سے بھی دیکھا جائے اس میں قوس  
قرح کی ماندر مگ سٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کے بیانات میں اسی تباہی  
ہوتی ہے کہ حاضرین کے دل موم ہو جاتے ہیں۔ عاجز کے دل میں یہ جذبہ پیدا

ہوا کہ ان خطبات کو تحریری شکل میں بھجا کر دیا جائے تو عوام الناس کے لئے فائدہ کا باعث ہوں گے۔ چنانچہ عاجز نے تمام خطبات شریف صفحہ، قرطاس پر رقم کر کے حضرت اقدس کی خدمت عالیہ میں تصحیح کے لئے پیش کئے۔ الحمد للہ کہ حضرت اقدس دامت برکاتہم نے اپنی گوناں گوں مصروفیات کے باوجود ذرہ نوازی فرماتے ہوئے نہ صرف ان کی تصحیح فرمائی بلکہ ان کی ترتیب و ترتیب میں کو پسند بھی فرمایا۔ یہ انہی کی دعائیں اور توجہات ہیں کہ اس عاجز کے ہاتھوں یہ کتاب مرتب ہو سکی۔

**ممنون ہوں میں آپ کی نظر انتخاب کا**  
 حضرت دامت برکاتہم کا ہر بیان بے شمار فوائد و ثمرات کا حامل ہے۔ ان کو صفحات پر منتقل کرتے ہوئے عاجز کی اپنی کیفیت عجیب ہو جاتی اور میں السطور دل میں یہ شدید خواہش پیدا ہوتی کہ کاش کہ میں بھی ان میں بیان کردہ احوال کے ساتھ متصف ہو جاؤں۔ یہ خطبات یقیناً قارئین کے لئے بھی نافع ہوں گے۔ خلوص نیت اور حضور قلب سے ان کا مطالعہ حضرت کی ذات با برکات سے فیض یاب ہونے کا باعث ہو گا۔

اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ وہ اس ادنی سے کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے کرنے کو بھی اپنے چاہئے والوں میں شمار فرمائیں۔ آمین ثمہ آمین

فقری محمد حنیف عقی عنہ  
 ایم اے۔ بنی ایم  
 موضع باغ، جہنگ

واشکروی



انسان کو چاہئے کہ وہ اپنی اوقات کو یاد رکھے۔ یاد رکھنا  
کہ جو بندہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ  
آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ اس بات کا استحضار  
رہے کہ ہم کیا تھے اور کیا بنے پھرتے ہیں۔ ذرا بتائیں  
کہ جب ہم دنیا میں آئے تھے اس وقت کیا مال  
ہمارے پاس تھا؟ لباس تھا؟ مکان تھا؟ کیا بیوی نبچے  
تھے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ دنیا میں ملا۔ یہ  
سب کچھ کس نے دیا؟ اللہ رب العزت نے دیا۔

## واشکر ولی

الحمد لله و كفى و سلم على عباده الذين اضطفتني اما بعد  
 أخوذ بالله من الشيطان الرجيم ۝ بسم الله الرحمن الرحيم ۝  
 فاذكروني أذكروكم و اشكروا إلى ولا تكفرون .  
 مُبْحَنْ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يصفونَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ  
 وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ارشاد باری تعالیٰ ہے فاذکروني اذکروکم و اشکروا الى ولا تکفرون (البقرة: ۱۵۲) اس آیت کے اول حصے میں ذکر کے بارے میں مضمون ہے اور دوسرے حصے میں شکر کا بیان ہے۔ ذکر کے متعلق تو اکثر بیانات ہوتے رہتے ہیں لہذا ارادہ ہے کہ آج شکر کے عنوان پر بات کہی جائے۔

## دور حاضر میں مادی نعمتوں کی بہتان

مادی اعتبار سے اللہ رب العزت کی جتنی نعمتیں آج ہیں اتنی اس سے پہلے نہیں تھیں۔ آج کا عام بندہ بھی پہلے وقت کے بادشاہوں سے کئی معاملات میں بہتر زندگی گزار رہا ہے۔ پہلے وقت کے بادشاہوں کے گھروں میں بھی کے چراغ جلتے تھے جبکہ آج کے غریب آدمی کے گھر میں بھی بھلی کا قفقہ جلتا ہے۔ ایسی روشنی پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں تھی۔ بادشاہوں کے خادم ان کو ہاتھ سے پٹکھا کیا کرتے تھے جبکہ آج کے غریب آدمی کے گھر میں بھی بھلی کا پٹکھا موجود ہے۔ جو شخص اپنی آج ایک عام آدمی کو حاصل ہے وہ پہلے وقت

کے بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں تھا۔ اس پر قیاس کرتے جائیے کہ پہلے وقت کے بادشاہ اگر سفر کرتے تھے تو ان کو گھوڑوں پر سفر کرنا پڑتا تھا اور انہیں ایک ایک مہینہ سفر میں لگ جاتا تھا۔ آپ گھوڑے پر سوار کر پشاور سے کراچی چلیں تو یہ ایک مہینے کا سفر بنے گا۔ لیکن آج کا ایک عام انسان اگر ریل گاڑی پر بینچ کر کراچی جانا چاہے تو یہ ایک دن سوار ہو گا اور دوسرے دن سورج ڈاہنے سے پہلے کراچی پہنچ پکا ہو گا۔ پہلے وقت کے بادشاہوں کو صرف موسم کے پھل ملتے تھے جبکہ آج ایک عام غریب آدمی کو بھی بے موسم کے پھل نصیب ہیں۔ پہلے علاقائی پھل ملا کرتے تھے جبکہ آن آدمی کو دوسرے ملکوں کے پھل بھی حاصل ہو جاتے ہیں اور وہ مزے سے کھا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے یہ نعمتیں عام کر دی ہیں۔

## ناشکری میں اضافہ

گویا مادی اعتبار سے نعمتوں کی جتنی بارش آج ہے اتنی پہلے بھی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی جتنی ناشکری آج ہے، اس سے پہلے بھی نہیں تھی۔ جس کی زبان سے سنو، اسی کی زبان پر ناشکری ہے۔ ہر بندہ کہے گا کہ کاروبار اچھا نہیں، گھر میں مشکلات ہیں اور صحت خراب ہے بیزاروں میں سے کوئی ایک بندہ ہو گا کہ جس سے بات کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے گا۔ آخر وہ کیا ہے؟ کھانے پینے کی بہتات کا یہ عالم ہے کہ آج کا فقیر اور بھکاری بھی روئی نہیں مانگتا بلکہ سگریت پینے کے لئے دو روپے مانگتا ہے اسلئے کہ اسے نشر کرنا ہے۔

## زیادہ کھا کر مرنے والے

آج کے زمانے میں زیادہ کھا کر مرنے والوں کی تعداد فاقوں سے مرنے والوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ ذرا بتائیے کہ جو دل کی شریانیں بند ہوتی ہیں وہ فاقے سے بند ہوتی ہیں یا چکنائی زیادہ کھانے سے بند ہوتی ہیں؟ شوگر کی بیماری زیادہ کھانے سے ہوتی ہے یا فاقے کرنے سے ہوتی ہے؟ بند پریشر کی بیماری زیادہ کھانے سے ہوتی ہے یا فاقے کرنے سے ہوتی ہے؟ یقیناً زیادہ کھانے سے یہ بیماریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آج اکثر لوگ مر رہے ہیں۔ کھا کھا کر مر رہے ہیں لیکن پھر بھی زبان پر اللہ تعالیٰ کے شکوے ہیں۔

## اللہ تعالیٰ کا حلم

عطاؤ بن ابی رباح اللہ کے ایک نیک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات القافرہمی کہ اے عطا! ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر ان کو رزق کی تھوڑی سی تنگی پہنچ تو یہ فوراً محفل میں بینٹ کر میرے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ ان کے نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے میرے پاس آتے ہیں مگر میں فرشتوں کی محفل میں ان کی شکایتیں تو بیان نہیں کرتا۔

## پہلی بڑی نعمت

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر وہ

چاہتا تو گدھا بنادیتا۔ کسی نے ہمارے اوپر بوجھ لادا ہوتا اور وہ ڈنڈے لگارہا ہوتا۔ ہم ڈنڈے بھی کھارہے ہوتے اور سامان بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے۔ اگر وہ ہمیں بندر بنادیتا تو کسی نے ہمارے گلے میں لگام ڈالی ہوتی وہ ہمیں گلیوں میں نچا رہا ہوتا اور ہم تاج رہے ہوتے۔ پروردگار کا یہ کتبہ بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے انسانیت کی خلعت سے نواز اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔

## صحیح سالم اعضاء

اللدرب العزت نے ہمیں اشرف الخلوقات بنا کر صحیح سالم اعضاء دیئے۔ اگر وہ انسان تو بنادیتا مگر عقل نہ دیتا تو پا گلوں کی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے؟ اگر وہ انسان تو بنادیتے مگر آنکھیں نہ دیتے تو ہم گلیوں میں ٹھوکریں کھارہے ہوتے، جس کو ہم ماں باپ کہتے ہیں ان کے چہرے کو دیکھنے سے بھی ترس رہے ہوتے، پروردگار عالم اگر زبان نہ دیتا تو ہمارے اندر جذبات تو ہوتے لیکن ہم اپنی محبت کے جذبات کو اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے سامنے بیان بھی نہ کر سکتے۔ اگر وہ ساعت نہ دیتے تو لوگ اشاروں سے بات کرتے اور ہم ان کی باتیں اشاروں سے سمجھا کرتے۔ اگر وہ ناگھیں نہ دیتے تو ہم کیسے پیدل چل سکتے؟ اگر ہاتھ نہ دیتے تو ہم کیسے کام کر سکتے تھے؟ پروردگار عالم نے یہ سب نعمتیں ہمیں بن مانگے عطا فرمائیں۔ اگر کوئی آدمی آپ کو ایک لاکھ روپیہ دے اور کہے کہ ذرا آپ دونوں آنکھیں نکال دیجئے تو کون تیار ہو گا؟ کوئی بھی تیار نہیں ہو گا۔ لیکن آپ کو ایک لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں آپ اپنی زبان کاٹ کر دے دیجئے، کوئی بھی تیار نہیں ہو گا۔ یہ اللدرب العزت کی

کتنی بڑی نعمتیں ہیں جنہیں کوئی بندہ پیسوں سے بھی خریدنیں سکتا اور ہم دینے کو تیار بھی نہیں ہوتے۔

## لمحہ فکر یہ

میرے دوستو! اللہ رب العزت اگر ہمیں عقل نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے، اگر بینائی نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے، اگر سماعت نہ دیتے تو ہم بہرے ہوتے، اگر گویائی نہ دیتے تو ہم گونگے ہوتے، اگر صحت نہ دیتے تو ہم بیکار ہوتے، اگر گھرنہ دیتے تو ہم بے گھر ہوتے، اگر اولاد نہ دیتے تو ہم لاولد ہوتے، اگر اللہ رب العزت ہمیں مال نہ دیتے تو ہم بھکاری ہوتے اور اگر وہ ہمیں عزت نہ دیتے تو ہم ذلیل ہوتے۔ سبحان اللہ یہ عز توں بھری زندگی جو گزار رہے ہیں یہ اس مالک کا احسان ہی تو ہے۔

## دوسری بڑی نعمت

اللہ رب العزت کا دوسرا بڑا فیض یہ ہے کہ اس نے ایمان عطا فرمایا۔ پروردگار نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر دیا۔ ہمیں ابھی دائیں اور باعثیں کا بھی پتہ نہیں تھا کہ جب ہمارے ایک کان میں اذان کی گئی اور دوسرے میں اقامت۔ یوں ہمارے کانوں میں اللہ کا نام پہنچایا گیا۔ ماں ہمیں سلانے کے لئے تھکیاں دیتی تھیں تو حسبی ربی جل اللہ ہافی قلبی غیر اللہ کی لوریاں سنایا کرتی تھی۔ ہن جھولاجھلایا کرتی تھی تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اللہ کی لوریاں سناتی تھیں جب ہم ذرا بڑے ہوئے تو ہمارے والد جمعہ کے دن ہاتھ پکڑ کر مسجد کی طرف لے جاتے اور اس طرح انہوں نے ہمیں اللہ کے گھر کا راستہ دکھایا۔

ذرا سوچنے کے اتنی چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائیں جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے۔

## تیری بڑی نعمت

اس سے بڑھ کر یہ نعمت عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب مسیح ائمہ کی امت میں سے بنایا یہ وہ فضیلت ہے جسے حاصل کرنے کے لئے پہلے وقت کے انبیاء کرام بھی تمناً میں کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مسیح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور وہ قرب قیامت میں دنیا میں دوبارہ تشریف لا میں گے اور اس امت میں آ کر زندگی گزاریں گے.... امتی ہونے کے ناطے روزِ محشر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نبی کریم مسیح ائمہ نے فرمایا کہ جنتیوں کے تین حصے بنائے جائیں گے ان میں سے دو حصے میری امت کے ہوں گے اور ایک حصہ باقی تمام انبیاء کی امتوں کا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی ملکہم کو ایک ایک دعا، نگنے کا اختیار دیا جسے من و عن قبول کر لیا جائے گا چنانچہ سب انبیاء نے دعا میں مانگیں اور اللہ رب العزت نے قبول فرمائیں صحیہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب مسیح ائمہ! کیا آپ نے بھی کوئی دعا، نگی؟ ارشاد فرمایا، میں نے اپنی دعا کو آخرت کے لئے ذخیرہ بنالیا، میں نے دعائیں مانگی، میں قیامت کے دن وہ دعا مانگوں گا اور اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا تو یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رحمتہ للعالمین مسیح ائمہ کی امت میں سے پیدا فرمادیا۔

## نعمتوں کا شمار

اچھا آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی آدمی بارش کے پانی کے قطروں کو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا ساری دنیا کے درختوں کے چبوں کو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کو گن سکتا ہے؟ نہیں ان سکتا لیکن اسکے باوجود یہ عاجز کہتا ہے کہ آسمان کے ستاروں کو گناہ ممکن ہے، بارش کے قطروں کو گناہ ممکن ہے، ساری دنیا کے درختوں کے چبوں کا گناہ ممکن ہے، ساری دنیا کی ریت کے ذرات کو گناہ ممکن ہے لیکن اللہ رب العزت کی جو فرمیں ہم پر برس رہی ہیں ان نعمتوں کو گناہ ہمارے لئے ناممکن ہے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمادیا:

وَإِنْ تَعْدُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ لَا تُخْضُرُوهَا (ابراهیم: ۳۲)

(اور اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گناہ بھی چاہو تو تم اسکو گن بھی نہیں سکتے)

## بہترین نظام عصبی

ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ انسان کے دماغ کو پورے جسم سے ایک سینندھ میں ایک لاکھ اطلاعات مل رہی ہوتی ہیں اور دماغ ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اب سوچنے کہ دماغ کا سلامت رہنا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دماغ سے جسم کے اعضاء کو کنٹرول کروایا، اس کے لئے وائرگ کروائی اسے نرودس سشم کہتے ہیں۔ اس وائرگ کے ذریعے دماغ اعضاء کو سکنل بھیجتا ہے اور اسی سکنل پر اعضاء کام کرتے ہیں۔ یہ سب سکنلز دماغ

سے ریزہ کی بڑی میں جاتے ہیں اس کو سپاٹل کارڈ کہتے ہیں اور پھر وہاں سے پورے جسم میں جاتے ہیں..... میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا بلکہ ذمہ داری کے ساتھ پکی باتیں کر رہا ہوں..... انسان کے جسم میں کتنی نرود ہیں بک آف سرنس میں ڈاکٹروں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہر انسان کے اندر اتنی وارنگ استعمال ہوئی ہے کہ اگر ایک نرود کو دوسرا نرود سے جدا کر دیا جائے اور سب نرود کو ایک دوسرے کے ساتھ گاتھے باندھتے چلے جائیں تو یہ اتنی بسی ہوں گی کہ پوری دنیا کے گرد اس کے دو چکر آ سکتے ہیں۔ اتنی وارنگ ایک بندے میں کام کر رہی ہوتی ہے۔ یہ ساری وارنگ ٹھیک کام کرتی ہے تو ہماری صحت ٹھیک رہتی ہے اور کہیں سرکشارت ہو جائے تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کو فلاں بیماری Misthenia Gravous کی بیماری ہے، اس کو فلاں بیماری ہے، اس کو فلاں بیماری ہے، یوں بندے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہمارے گھروں میں بھلی کے تاروں پر پی وی سی انسویشن چڑھی ہوتی ہے اسی طرح ہمازے جسم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر نرود کو دوسرا نرود سے (Insulate) انسویٹ کیا ہوا ہے۔ ایک نرود دوسرا نرود سے شارٹ سرکٹ نہیں ہو سکتی۔ اب آپ سوچنے کہ یہ کتنا Complicated System (چیخیدہ نظام) ہے جو ہمارے جسم میں ٹھیک کام کر رہا ہے۔ بھی ہم نے اللہ کی اس نعمت کا شکر او اکیا ہے؟

یاد رکھیں کہ کچھ چیزوں کا ہونا انسان کے لئے نعمت ہے اور کچھ چیزوں کا نہ ہونا انسان کے لئے نعمت ہے۔ مثال کے طور پر ہم اگر کوئی چیز کھائیں تو وہ آرام سے پیٹ میں چلی جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی

لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز نہیں کھا سکتے۔ ایک خاتون نے فون پر دعاؤں کے لئے کہا وہ لا ہو رہتی ہے وہ کہنے لگی کہ پورے سات سال گذر گئے ہیں، میں سیوں اپ یا کوئی جوں وغیرہ پینے کے علاوہ اور چیزوں وغیرہ کھانہ نہیں سکتی۔ اگر کھانے کی کوشش کروں تو فوراً قہ آ جاتی ہے۔ کہنے لگی کہ میں سات سال سے گھروالوں اور رشتہ داروں کے لئے دعوتوں کے کھانے پکاتی ہوں مگر خود ان کھانوں کے کھانے سے محروم ہوں۔ میں تو کھانے کو ترس گئی ہوں۔ اب بتائیے کہ وہ تو سات سال سے کھانا نہیں کھا سکی۔ اگر ہم صبح، دوپہر، شام کھاتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ بھی محسوس کیا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آسانی سے اندر چلا جاتا ہے اور اندر کا کھانا باہر نہیں آتا۔

## غذا کی نالی کا والو

غذا کی نالی کے اندر ایک والو ہے۔ وہ ایسا والو ہے کہ انسان جو کھانا کھاتا ہے وہ اس کو اندر تو جانے دیتا ہے لیکن وہ اس کو باہر نہیں آنے دیتا۔ وہ جب باہر نکلنے لگتی ہے تو بند ہو جاتا ہے اور غذا کو واپس نہیں آنے دیتا۔ اس لئے آپ ابھی روٹی کھائیں اور ابھی سر کے بل لئے کھڑے ہو جائیں تو آپ کے منہ سے کھانا نہیں نکلے گا۔

## لیٹنے سے محروم ہونے والے ڈاکٹر

امریکہ میں ہمارے ایک دوست ڈاکٹر ہیں۔ وہ خود ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں۔ اللہ کی شان کہ ان کا یہ والو خراب ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو کچھ معدے میں

ہوتا ہے وہ ذرا بھی الٹے ہوں تو وہ سب کچھ منہ سے باہر نکلتا ہے۔ ان کی پریشانی حد سے بڑھنی۔ ڈاکتروں نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ لہذا آپ کو اپنی باقی زندگی میں کر گزارنا پڑے گی۔ آپ لیٹ بھی نہیں سکتے۔ چنانچہ جب وہ ہمیں ملنے کے لئے آتے ہیں تو سب لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بیچارے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر پاؤں لمبے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اسی حالت میں ان کو نیندا آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لیٹ کر سونے والی نعمت چھین لی ہے۔ ان کو دیکھ کر ہمیں یہ احساس ہوا کہ اے مالک! لیٹ کر بستر پر آرام سے سو جانا آپ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔

## آنکھ کا واپس

ایک آدمی کا ایکیڈنٹ ہوا۔ ان کی آنکھ کا پوٹا کٹ گیا۔ ان کی ایک آنکھ پر پردہ تھا اور دوسری پر نہیں، جیسے مچھلی کی آنکھ ہوتی ہے۔ چند دنوں میں ان کا زخم تو ٹھیک ہو گیا لیکن پریشانی یہ تھی کہ ہر دو تین گھنٹوں کے بعد آنکھ کی بینائی دھنڈلی ہو جاتی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہوا میں مشی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، وہ آنکھ پر جم جاتے ہیں۔ اس لئے آپ کو بار بار آنکھ دھونا پڑے گی۔ چنانچہ اسے ہر دو گھنٹے بعد آنکھ دھونا پڑتی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی پانی میں زیادہ دیر نہایے یا آپزے یا برتن دھونے تو ہاتھ کیسے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ بار بار آنکھ کو دھونے لگے تو ان کے رخسار کے اوپر زخم سا بن گیا۔ اس کے بعد پانی لکنے سے انہیں جلن محسوس ہونے لگی۔ وہ پریشان تھے۔ ڈاکٹروں کو بتایا تو وہ کہنے لگے کہ ہم اچھی نہیں کر سکتے۔ ایک دن وہ بڑا رو یا اور ڈاکٹروں سے کہا۔ اس کا کوئی حل نکالیں۔ مگر ڈاکٹروں نے کہا کہ بات

در اصل یہ ہے کہ انسان کی آنکھ کو صاف رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے آنکھ کا یہ پرده بنایا ہے اور اس پر دے کو واپر بنادیا ہے۔ جو انسان کی آنکھ کی سکرین کو خود بخود صاف کرتا رہتا ہے۔ ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، پانی پی رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور پلک خود بخود جھپک رہی ہوتی ہے۔ اب آپ کی آنکھ کا واپر ختم ہو چکا ہے اس لئے آپ کو یہ آنکھ پار پار صاف کرنا پڑے گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ کہنے لگے، اے اللہ! پلک کا جھپکنا تیری کتنی بڑی نعمت تھی۔

### دمہ کے مریضوں کی بے چینی

آپ ذرا اس آدمی کو دیکھیں جو (دمہ) کا مریض ہو۔ ہم نے ایسے مریضوں کو دیکھا ہے۔ ان بیچاروں کی اندر کی سانس اندر اور باہر کی باہر رہتی ہے۔ ان کی حالت بالکل ایسے ہوتی ہے جیسے مرغ نیم بکل کی تڑپتے وقت ہوتی ہے، سانس ان کے قابو میں نہیں ہوتی۔ گویا سانس کا آرام سے اندر چلے جانا اور پھر اندر سے آرام سے باہر آ جانا اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسے مریضوں نے اپنے پاس پمپ رکھے ہوتے ہیں۔ ذرا سی گردیا مٹی آ جائے تو پمپ لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ کیا کریں، سانس اکھڑ جاتا ہے۔

### پیالہ بھر پانی کی قیمت

ایک مرتبہ سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتھے۔ وقت کا بادشاہ ہارون الرشید اس وقت ان کے دربار میں موجود تھا۔ ہارون الرشید کو پیاس

گلی۔ اس نے اپنے خادم سے کہا کہ مجھے پانی پلاو۔ خادم ایک گلاس میں نہنڈا پانی لے کر آیا۔ جب بادشاہ نے گلاس ہاتھ میں پکڑ لیا تو سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کہا کہ بادشاہ سلامت! ذرا رک جائیے۔ وہ رک گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ جیسے آپ کو ابھی پیاس لگی ہے ایسے ہی آپ کو پیاس لگے اور پوری دنیا میں اس پانی کے سوا کہیں اور پانی نہ ہو تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اس پیالے کو کتنی قیمت میں خریدنے پر تیار ہو جائیں گے؟ ہارون الرشید نے کہا، میں تو آدمی سلطنت دے دوں گا۔ پھر سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ یہ پانی پی لیں اور یہ آپ کے پیٹ میں چلا جائے، لیکن اندر جا کر آپ کا پیشاب بند ہو جائے اور پھر وہ نکل نہ پائے اور پوری دنیا میں صرف ایک ڈاکٹر یا حکیم ہو جو اسے نکال سکتا ہو تو بتائیے کہ اس کو نکالنے کی فیس کتنی دیں گے؟ سوچ کر ہارون الرشید نے کہا، بقیہ آدمی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا۔ وہ کہنے لگے، بادشاہ سلامت! ذرا غور کرنا کہ آپ کی پوری سلطنت پانی کا ایک پیالہ پینے اور پیشاب بن کر نکلنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر کبیرا

اگر ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں پر غور کریں تو پھر دل سے یہ آواز نکلے گی کہ ہمیں اپنے رب کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہئے۔ ہم پر تو اس کی بڑی نعمتیں ہیں۔ ہم تو واقعی ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔

## اولاد والی نعمت

جن کے پاس اولاد ہے وہ ذرا اس بندے سے بات کر کے دیکھیں جس کو اولاد نہیں ملی۔ ہم نے لوگوں کو اولاد کے لئے رو تے ہوئے دیکھا ہے۔ عورتیں

بیچاری رو رکر اللہ سے اولاد مانگتی ہیں کہ اے اللہ! ہمیں اولاد والی نعمت عطا فرمائیں مگر اولاد نہیں ملتی۔ ڈاکٹروں کو فیس بھی دیتی ہیں، چیک اپ بھی کرواتی ہیں، اور سارا کچھ کرنے کے بعد پھر بھی روکر دعا میں مانگ رہی ہوتی ہیں۔ پور دگار نے ہمیں جو اولاد عطا فرمائی ہے وہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے۔

## بھکاری عورتوں کا مقدر

آپ نے بڑے شہروں میں دیکھا ہوگا کہ وہاں لڑکیاں اور عورتیں مانگنے والی پھر رہی ہوتی ہیں۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ شاپ پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اچانک کوئی شیشہ کھٹکھٹاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں تو مانگنے والی عورت نظر آتی ہے۔ جب کوئی مانگنے والی عورت دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو میرا دل کا نپ جاتا ہے اور ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اے اللہ! یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی اور کسی کی ماں ہوگی۔ آپ نے اس کا کیا مقدر بنایا کہ یہ غیر مردوں کے سامنے اپنے باتھ پھیلاتی پھرتی ہے، وہوپ میں دھکے کھاتی پھرتی ہے، کبھی اس کے پاس بیٹھی اس کے پاس۔ اس پر کیسی کیسی نگاہیں پڑتی ہیں، اسے کیسی کیسی باتیں سننا پڑتی ہیں، کوئی دے دیتا ہے کوئی ٹھکرایا دیتا ہے اور یہ مانگ مانگ کر نکلنے کھار رہی ہوتی ہے۔ آپ نے ہماری عورتوں کو گھر کے اندر پر دے میں رہ کر من مرضی کی غذا میں پکا کر کھانے کی جو نعمت دی، ہم تو اس نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اگر خدا نخواستہ ہماری عورتوں کو بھی روٹی کے لئے گھر سے باہر نکلا پڑتا تو کیا بتا؟ یہ غیر تین کلدھر جاتیں۔ ہماری عزتیں اس لئے محفوظ ہیں کہ گھر بیٹھے رزق مل جاتا ہے، ہم اپنی من پسند کے کھانے کھاتے

میں - صبح اٹھ کر عورت میں میاں سے پوچھتی ہیں کہ آج کیا پکانا ہے یعنی اللہ رب العزت نے اتنا دیا ہوا ہے کہ جو چاہیں پکا سکتے ہیں - یہ اللہ تعالیٰ کا کتن بڑا کرم ہے - ہمیں اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے۔

## اپنی اوقات کو نہ بھولیں

انسان کو چاہئے کہ وہ اپنی اوقات کو یاد رکھے - یاد رکھنے کے جو بندہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال دیتے ہیں - اس بات کا استحضار ہے کہ ہم کیا تھے اور کیا بنے پھرتے ہیں - ذرا بتا میں کہ جب ہم دنیا میں آئے تھے اس وقت کیا مال ہمارے پس تھا؟ کیا مکان ہمارے پاس تھا؟ کیا یوں بچے تھے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ دنیا میں ملا۔ یہ سب کچھ کس نے دیا؟ اللہ رب العزت نے دیا۔

## ایک بے ادب کی سرزنش

ایک بے ادب اور گستاخ آدمی مجھے کہنے لگا کہ یہ سب کچھ ہم نے اپنی عقل سے کیا، اچھے فیصلے کئے اور محنت سے کمایا۔ میں نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں عقل کس نے دی؟ وہ کہنے لگا، اللہ نے۔ میں نے کہا، تمہیں محنت کرنے کی توفیق کسی نے دی؟ وہ کہنے لگا، اللہ نے۔ میں نے کہا کہ پھر معلوم یہ ہوا کہ رزق تو پھر اللہ نے ہی دیا۔

## ایک سبق آموز حکایت

حضرت مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ ترجمان اللہ میں ایک حدیث نقل

فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے تین آدمی تھے۔ ان میں سے ایک آدمی برص کا  
مریض تھا۔ اس کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا کہ بھی؟ کیا آپ کی کوئی  
پریشانی ہے؟ اس نے کہا، میں کوئی پریشانی آپ کو بتاؤں؟ ایک تو میں برص کا  
مریض ہوں جس کی وجہ سے لوگ میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اور دوسرا  
رزق کی بڑی تنگی ہے۔ اس آدمی نے کہا، اچھا اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری بھی دور  
کر دے اور آپ کے رزق میں برکت بھی عطا فرمادے۔ نتیجہ یہ لکلا کہ اللہ  
تعالیٰ نے اس کی بیماری بھی دور کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اونٹی عطا  
فرمائی۔ اس اونٹنی کی نسل اتنی بڑی کہ وہ ہزاروں اونٹوں اور اونٹنیوں کے رویوں کا  
مالک بن گیا۔ جس کی وجہ سے وہ بڑا امیر آدمی بن گیا اور رہائش کے لئے  
 محلات بنانے لئے۔

دوسرा آدمی گنجاتھا۔ وہ آدمی اس سنبھے کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا تمہاری  
کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا، جناب میرے سر پر توبال ہی نہیں ہیں۔ جس  
کے پاس بیٹھوں وہی مذاق کرتا ہے، جو کار و بار کرتا ہوں ٹھیک نہیں چلتا۔ اس  
نے کہا، اچھا اللہ تعالیٰ تجھے سر پر خوبصورت بال بھی عطا کرے اور تجھے اللہ تعالیٰ  
رزق بھی دے دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک گائے عطا کی۔ اس گائے  
کی نسل اتنی بڑی کہ وہ ہزاروں گائیوں کے رویوں کا مالک بن گیا۔ وہ بھی  
عالیشان محل میں بڑی سعادت کی زندگی گزارنے لگ گیا۔

تمیرا آدمی آنکھوں سے اندھا تھا۔ وہ آدمی اس اندھے کے پاس گیا اور  
اس سے پوچھا، بھی؟ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں؟ اس نے کہا، جی میں تو در بدر  
کی ٹھوکریں کھاتا ہوں۔ لوگوں کے گھروں سے جا کر مانگتا ہوں، ہاتھ پھیلاتا

ہوں، میری بھی کوئی زندگی ہے، بلکہ مانگ کر کھاتا پھرتا ہوں، میں نہ اپنی ماں کو دیکھ سکتا ہوں اور نہ باپ کو، اس کے علاوہ رزق کی تنگی بھی ہے۔ اس آدمی نے اس کی بینائی کے لئے اور رزق کی فراخی کے لئے دعا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بینائی بھی دے دی۔ اس لوایک بکری دی۔ اس بکری کا رویہ اتنا بڑھا کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا۔ اس طرح وہ بھی عالیشان محل میں عزت کی زندگی گزارنے لگ گیا۔ کئی سالوں کے بعد وہ تینوں اپنے وقت کے سینئر کہلانے لگے۔

کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہی آدمی پہلے کے پاس آیا۔ اس نے اسے کہا کہ میں ایک محتاج ہوں، اللہ کے نام پر مانگنے کے لئے آیا ہوں۔ اسی اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آج اتنا کچھ آپ کے پاس ہے، آپ اس میں سے اسی اللہ کے نام پر مجھے بھی کچھ دے یں۔ جب اس نے سنا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اس کا پارہ چڑھ گیا اور کہنے لگا، ذلیل قسم کے لوگ مانگنے کے لئے آجاتے ہیں، خبردار! آئندہ ایسی بات نہ کرنا، میں امیر، میرا بابا امیر اور میرا پروادا امیر تھا۔ ہم تو جدی پشتی امیر ہیں، تم کون ہو بات کرنے والے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں جوتے لگواؤں گا۔ چنانچہ اس نے کہا، اچھا میاں! ناراض نہ ہونا، تم جیسے تھے اللہ تمہیں دیساہی کر دے۔ وہ جب یہ کہہ کر چلا گیا تو اس کے جانوروں میں ایک بیماری پڑ گئی اور اس کے سب اونٹ وغیرہ مر گئے اور برص کی بیماری بھی دوبارہ لگ گئی، گویا وہ جس پوزیشن میں تھا اسی پوزیشن میں دوبارہ لوٹ آیا۔

اس کے بعد وہ دوسرے شخص کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میں محتاج ہوں، میں اسی اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہوں جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آج اتنا کچھ ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو وہ بڑا غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، تم تو مفت خورے ہو، ہم نے کما کر اتنا کچھ بنایا ہے، میں نے فلاں سودا کیا تو اتنی بچت ہوئی اور فلاں سودا کیا تو اتنے کمائے، لوگ مجھے بڑا بزنس مائینڈ ڈ کہتے ہیں۔ میری تو یہ خون پسینے کی کمائی ہے، ایسے ہی درختوں سے تو ڈکھپڑ لگاؤں گا۔ جب اس امیرادی نے خوب ڈانت ڈپٹ کی تو اس نے کہا، بھی! ناراض نہ ہونا، تم جیسے پہلے تھے اللہ تمہیں دوبارہ دیے ہی کر دے۔ چنانچہ اس کے سر کے بال بھی غائب ہو گئے اور اللہ رب العزت نے اس کی گائیوں میں ایک ایسی بیماری پیدا کر دی جس سے سب گائیں مر گئیں۔ اسی طرح وہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی بن گیا۔

اس کے بعد وہ آدمی تیرے کے پاس گیا اور اسے کہا، بھی! میں اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہوں محتاج ہوں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا، اب اسی اللہ کے نام پر مجھے بھی کچھ دے دو۔ جب اس نے یہ بات کی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا، بھی! تم نے بالکل صح کہا، میں تو اندھا تھا، لوگوں کے لئے تورات کو اندھیرا ہوتا ہے اور میرے لئے تو دن میں بھی اندھیرا ہوا کرتا تھا، میں تو در در کی شکوہ کیس کھاتا تھا، لوگوں سے مانگ مانگ کر زندگی گزارتا تھا، میری بھی کوئی حالت تھی؟ کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے مجھے دعا دی، اللہ نے مجھے بینائی بھی دے دی اور اتنا رزق بھی دے

دیا۔ آج آپ اس اللہ کے نام پر مانگنے کے لئے آئے ہیں تو میاں! ان ”و پہاڑوں کے درمیان ہزاروں بکریاں پھر رہی ہیں، جتنی چاہو تم اللہ کے نام پر لے جاؤ۔ جب اس امیر ادمی نے یہ بات کی تو مخاطب کہنے لگا، مبارک ہو، میں تو اللہ تعالیٰ کافرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تین بندوں کی طرف آزمائش بنانکر بھیجا تھا، وہ تو اپنی اوقات کو بھول گئے ہیں مگر تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے مال میں الہد زیادہ برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی بنی اسرائیل کا سب سے بڑا امیر کبیر آدمی تھا۔ ثابت ہوا کہ بندہ اگر اپنی اوقات اور بنیاد کو یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں۔

### تکبر کا بول

آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، ان کا کام بڑا چھا ہوتا ہے، پھر یک دم سب نیچے آ جاتے ہیں۔ پھر آ کر کہتے ہیں کہ حضرت! پہلے لاکھوں لینے تھے، اب لاکھوں دینے ہیں۔ پہلے ہم مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے تو سونا بن جاتا تھا اور اب سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اس کی دو وجہات ہیں۔ یا تو وہ اپنی اوقات کو بھول کر ناشکری کرتے ہیں یا پھر کوئی تکبر کا بول بولتے ہیں۔ تکبر کا بول اللہ تعالیٰ کو بڑا ناپسند ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان سے نعمتیں واپس لے لیتے ہیں۔

### میز کے دوسری طرف

میرے دوستو! یہ بات یاد رکھنا کہ جو پروردگار دینا چاہتا ہے وہ پروردگار دینا بھی جانتا ہے۔ بندے کو بندگی اور عاجزی ہی سمجھتی ہے۔ لیکن جو بندہ ”میں“

دکھائے اور اس میں بڑا پن آجائے تو پھر اللہ رب العزت اس کے حالات کا رخ بدل دیتے ہیں۔

**He can put us on the other side of the table.**

وہ جب چاہے ہمیں میز کے دوسری طرف بٹھا سکتا ہے۔ آج اس نے دینے والا بنایا ہے، اگر وہ چاہے تو کل ہمیں لینے والا بھی بناسکتا ہے۔ پھر ہم مانگتے پھر ہے ہوں گے۔

## ایک زر میں اصول

میرے دوستو! ایک اصول یاد رکھنا کہ نعمتوں کی قدر دانی کے لئے نعمتوں کے چھن جانے کا انتظار نہ کرنا، بلکہ اس سے پہلے پہلے نعمتوں کی قدر کر لینا۔ کیونکہ نعمتوں کے چھن جانے کے بعد تو یہ ضرب المثل صادق آتی ہے ”اب پچھتا ہے کیا ہوت جب چڑیاں چک گئیں کھیت“ آج کے اس پورے بیان کا خلاصہ جو یہ عاجز آپ کو سمجھانا چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ نعمتوں کی موجودگی میں نعمتوں کی قدر دانی کرنا سمجھئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ فرمادیں گے اور اگر ہم تکبر کی باتیں کریں گے تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کو ناپسند فرماتے ہیں۔

## تکبر کی سزا

ہمارے شہر میں ایک بڑا زمیندار آدمی تھا۔ انگریزوں کی حکومت نے اسے اتنی زمینیں دیں کہ ریل گاڑی چلتی تو اگلا سیشن اسی کی زمین میں آتا تھا، پھر ریل گاڑی چلتی تو دوسرا سیشن بھی اس کی زمین ہی میں آتا تھا، پھر ریل گاڑی

چلتی تو تیرا اشیش بھی اس کی زمین میں آتا تھا۔ گویا ریل گاڑی کے تین اشیش اس کی زمینوں میں آتے تھے۔ وہ اربوں پتی آدمی تھا۔ اس کا عالیشان گھر تھا، خوبصورت بیوی تھی اور ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کی زندگی مٹھاٹھ کی گز رہی تھی۔ وہ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کے ایک چوک میں کھڑا آئس کریم کھار ہاتھا۔ اسی دوران اس کے دوستوں نے کہا کہ آج کل کار و بار اچھا نہیں ہے، کچھ پریشانی ہے اور ہم مصروف رہتے ہیں۔ یہن کہ اس کے اندر ”میں“ آئی اور وہ کہنے لگا، یا راتم بھی کیا ہو، ہر وقت پریشان پھرتے ہو کہ آئے گا کہاں سے؟ لیکن میں تو پریشان پھرتا ہوں کہ لگاؤں گا کہاں پ۔ میری تو اکیس نسلوں کو بھی کمانے کی پرواہ نہیں ہے۔

جب اس نے تکبر کی یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند آئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ چھ مہینوں کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پیچھے اس کا نوجوان بیٹا تھا۔ اس کی عمر سترہ اٹھارہ سال تھی۔ وہ اس کی ساری جائیداد کا وارث بن گیا۔ اٹھتی جوانی تھی اور پیسہ بھی بے حد و حساب تھا۔ اسی طرح کے اس کے دوست بھی بن گئے جنہوں نے اس کو غلط راستے پر ڈال دیا۔ اس کو شباب اور شراب والے کام سکھا دیئے۔ اٹھتی جوانی میں یہ جنسی گناہ بڑے Attractive (پکش) ہوتے ہیں۔ آدمی چاہتا ہے کہ کھانا ملے یا نہ ملے البتہ یہ گناہ کرنے کا موقع ضرور ملنا چاہئے۔ چنانچہ اس کو روزانہ نئے مہماں مل جاتے۔ اس طرح وہ پیسہ پانی کی طرح بھانے لگ گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد اس نے بڑے شہروں کا رخ کر لیا۔ اس نے چند سالوں میں خوب جی بھر کر عیاشی کی۔ اسے کوئی ایسا دوست ملا جس نے اسے کہا کہ آؤ ذرا ہم تمہیں باہر ملک کی سیر کراؤ تے ہیں۔ وہ اسے

تحالی لینڈ لے گیا۔ وہاں پر اس نے چٹی چڑی (گورے رنگ والی لڑکیوں) سے اس کا تعارف کروا دیا۔ وہاں کے کلبوں میں بھی دریا کی طرح پیسہ بھایا۔ وہاں اس نے ساری ساری رات عیاشی کرنے میں گزار دی۔ حتیٰ کہ سارا بنک بلنس ختم ہو گیا۔

اب نہ صحت رہی اور نہ پیسہ رہا۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ واپس آ کر اس کو گھر بھی نہ پڑ گیا۔ چنانچہ جب گھر بھی بک گیا تو اس نے فٹ پاٹھ پر سونہ شروع کر دیا اور جس چوک میں کھڑے ہو کر اس کے باپ نے تکبر کی بات کی تھی اسی چوک میں اس کا یہ بیٹا کھڑے ہو کر بھیک مانگا کرتا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے دکھادیا کہ تمہیں ہم نے جو اتنا دیا ہے اس پر تکبر کرتے ہو، کہتے ہو کہ میں پریشان ہوں کہ لگاؤں گا کہاں پہ اور تم کہتے ہو کہ میری اکیس نسلوں کو بھی کمانے کی پرانیں نہیں، جہاں تم کھڑے ہو، میہیں تمہارا بیٹا کھڑا ہو کر بھیک مانگا کرے گا۔ میرے دوستوا ہو سکتا ہے کہ باقی گناہوں کی سزا فقط آخرت میں ملے، لیکن تکبر وہ گناہ ہے کہ جس کی آخرت میں سزا تو ملے گی ہی سہی، اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی ضرور دیا کرتے ہیں۔

## شکر کا مفہوم

لفظ "شکر" کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اپنے محسن کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کی تعریفیں کرنا، اس کی بات کو مان لینا اور اس کی نافرمانی کرنے سے شرما جانا شکر کہلاتا ہے۔

احسانات کو یاد کر کے اس کی تعریف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آج کوئی سیوں اپ پلا دے تو اسے **Thankyou** کہہ دیتے ہیں۔ جو سوڑے کی

بوتل پلا دے اس کا تو شکر یہ ادا کرتے ہیں اور جو روز صحیح دو پھر شام کھانا کھلانے اس کا شکر ادا کرنا یاد ہی نہیں ہوتا۔ جس نے بیٹھے کی نوکری لگوادی اس کی تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس نے میرے بیٹھے کی نوکری لگوائی ہے اور جو سارے گھر والوں کو رزق دینے والی ذات ہے اس کی تعریف زبان سے نکلتی ہی نہیں ہے۔ محسن کی بات کو مان لینا بھی اس کا شکر ہی ہوتا ہے۔ اور اس کی نافرمانی کرنے سے شر مانا، کہ بھتی! اس کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، اس کی تو مجھ پر بڑی نواز شات ہیں جن کی وجہ سے میں انکار نہیں کر سکا، یہ بھی شکر ہے۔ عام دستور بھی ہے کہ آدمی کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس مجھے جانا ہے، اس نے کام کھاتھا، اس کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، میں اگر اب اس کا کام نہیں کروں گا تو وہ مجھے کیا کہے گا۔

## احساس شکر پیدا کرنے کی ضرورت

ہمیں چاہئے کہ ہم تینوں طرح سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک تو زبان سے اپنے رب کی تعریفیں ڈٹ کر کریں۔ جتنی تعریفیں کر سکتے ہیں خوب کریں۔ مگر آج تو یہ حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ دس اور گھروں کی بھی آسانی سے کفالت کر سکتا ہے، مگر جب اس سے پوچھیں کہ کار و بار کا کیا حال ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی بس گزارہ ہے۔ میرے دوستو! اس سے بڑا ناشکرمی والا لفظ اور کونسا ہے؟ زبان چھوٹی کیوں ہو گئی؟ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے کاموں میں برکت عطا کی ہوئی ہے۔ پروردگار نے مجھے جتنا کچھ دیا ہوا ہے میں تو اس کے قابل نہیں تھا۔ میں تو اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا

نہیں کر سکتا۔ اگر میں زندگی بھر سجدے میں سرڈا لے رکھوں تو میں پھر بھی اپنے پروردگار کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ میرا تو اگر بس چلتے تو میں تو اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسے بے قدرے کو بھی نعمتیں دے دی ہیں۔ اگر ہم سوچیں تو ہم واقعی بے قدرے ہیں۔ ہمارا پروردگار کتنا بلند و بالا ہے۔ جو بے قدروں کو بھی نعمتیں دے دیتا ہے۔ یوں احساس شکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

## لسانی شکر

ہمیں چاہئے کہ ہم ہر وقت اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کریں۔ مثال کے طور پر جب ہم خنثاً پای پیس تو الحمد للہ کہیں اور گرم روٹی کھائیں تو الحمد للہ کہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس بندے نے کسی نعمت پر الحمد للہ کہہ دیا گویا اس نے اس نعمت کا شکر ادا کر دیا۔ بیٹے پر نظر پڑے تو الحمد للہ کہیں، گھر پر نظر پڑے تو الحمد للہ کہیں، دکان پر جا کر بیٹھیں تو الحمد للہ کہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ! ایک مکان کی چھت ہے اور ایک اس کے اوپر نیلی چھت ہے، تو نے دو چھتوں کے نیچے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمادی۔ وہ بھی تو ہیں جو نیلی چھت کے نیچے پڑے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس سردی گرمی سے بچنے کے لئے کوئی چیز نہیں ہوتی۔

میرے دوستو! اپنے گھروں میں الحمد للہ کہنے کی عادت خوب ڈالیں۔ ہمارے ماحول معاشرے میں بہت کم لوگ الحمد للہ کہتے ہیں۔ یہ بات عورتوں کو سکھانی چاہئے تاکہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کہا کریں کہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دے دی۔ الحمد للہ خوب کہا کریں۔

دوسرے بس جان اللہ بار بار کہا کریں۔ تمیر الفاظ اللہ اکبر ہے، ایک اور لفظ لا الہ الا اللہ ہے اگر یہ الفاظ اکثر زبان پر رکھیں گے تو گویا یہ سماں شکر ادا ہو جائے گا۔

## جسمانی شکر

کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی فرمانبرداری کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَا إِنَّمَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ أَعْمَلُوا صَالِحَاتٍ اے ایمان والوا تم پا کیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو۔ چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں اسی لئے ہمیں چاہئے کہ ہم اس کی عبادت بھی خوب کریں۔ یہ جسمانی شکر ہو گا۔

## نعمتوں کی بقا کا آسان طریقہ

اللَّهُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَرِمَّا تَّمَّ هُنَّ شَكَرًا تُمْ لَأَرْزِيدُنُكُمْ (ابراهیم: ۷) اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتیں ضرور بالضرور اور زیادہ عطا کریں گے۔ گویا شکر ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے نعمتیں باقی بھی رہتی ہیں اور بڑھتی بھی چلی جاتی ہیں۔ نعمتوں کو باقی رکھنے کے لئے آسان طریقہ یہی ہے۔

ٹوٹے رشتے وہ جوز دیتا ہے  
بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے  
اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا  
لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے

یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ مانگنے والوں کو اپنے مانگنے میں کمی کا شکوہ رہا جب کہ دینے والے کے خزانے بہت زیادہ ہیں اور مانگنے والوں کے دامن چھوٹے

ہیں جو جلدی بھر جاتے ہیں۔

## قوم سبا کا عبر تناک انجام

میرے دوستو! اگر ہم ناشکری کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بھی نہ کریں اس کے حکموں کی فرمانبرداری بھی نہ کریں اور گناہوں سے بھی نہ بچیں تو پھر اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو واپس لے لیں گے۔ اس لئے کفر ان نعمت سے بچنے کی ضرورت ہے۔

قرآن مجید میں ایک قوم کا تذکرہ موجود ہے۔ جسے قوم سبا کہتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں ان کے راستے کے دونوں طرف باغات ہوتے تھے۔ چلوں کی اتنی بہتات ہوتی تھی کہ اگر کوئی آدمی خالی ٹوکری لے کر باغات میں سے گزرتا تو گرنے والے چلوں سے اس کی ٹوکری بھر جایا کرتی تھی۔ چھل توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی۔ ان کے ہاں یہ بھی دستور تھا کہ جہاں سے بھی کوئی چھل توڑنا چاہتا تھا توڑ سکتا تھا۔ کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی، اس طرح وہ ہر وقت چھل کھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے فرمایا، گُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا اللَّهَ میرے بندو! میری دی ہوئی نعمتیں کھاؤ اور میرا شکر ادا کرو۔ مگر وہ ناشکرے نکلے۔ اور کہنے لگے، اے اللہ! ہر طرف بزرہ ہے، باغات اور چھل ہیں، ہم تو ان کو دیکھ دیکھ کر شک آگئے ہیں۔ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ ہر طرف درخت ہوتے ہیں اور دوسرا شہر آ جاتا ہے، درمیان میں اگر کوئی دریا نہ ہوتا تو پتہ چلتا کہ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا رہے ہیں۔ جب انہوں نے ناشکری کی یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر کے پانی کو خشک کر دیا۔

جب پانی خشک ہو گیا تو سب باغات کے درخت سوکھ گئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم کر دیئے گئے اور کھانے کو بھی ترنسے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ میرے دوستو! قیامت کے دن آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں کوئی قرآن سنانے والا نہیں آیا تھا جو ہمیں کھوں کھوں کر بتاتا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی کتنی کتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **لَقَدْ كَانَ لِسَبَابِ فِي مَسْكُنِهِمْ أَيَّةً جَنَّتُنِ عَنْ يَمِينِ وَشِمَاءِ** (سبا: ۱۵) قوم سبا کے گھروں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ جن راستوں پر چلتے تھے ان کے دائیں طرف بھی باغ ہوتے تھے اور بائیں طرف بھی باغ ہوتے تھے۔ **كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا اللَّهَ بِلَدَةَ طَبِيعَةٍ وَرَبُّ غَفُورٍ** (سبا: ۱۵) اور فرمایا کہ میرا دیا ہوا رزق کھاؤ اور میرا شکر ادا کرو، لتنا پا کیزہ شہر ہے۔ اگر تم سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو معافی مانگ لینا، تمہارا پروردگار تو مغفرت کرنے والا ہے۔ مگر وہ اس نعمت کی قدر نہ کر سکے اور کہنے لگے زینا بعد نیز اسفارنا (سبا: ۱۹) اے اللہ! درمیان میں کوئی کھلی جگہ اور ویرانے ہوتے تا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہوئے پتہ چلتا کہ سفر کیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے باغات کو ختم فرمادیا اور پھر آخر پر فرمایا ذلک **جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَ هَلْ نُجزِي إِلَّا الْكُفُورَ** (سبا: ۷۱) انہوں نے نعمتوں کی ناقدری کی اور ہم نے ان کو نعمتوں کی ناقدری کا یہ بدله دیا۔ اور ماشکروں کا تو یہی بدله ہوتا ہے۔

## بھوک ننگ اور خوف کا لباس

اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور بستی والوں کے بارے میں فرماتے

ہیں کہ اس بستی والوں کے پاس امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا۔ مطلب یہ ہے کہ باہر کے دشمن کا کوئی خوف نہیں تھا بلکہ امن تھا، اور اندر کا کوئی غم نہیں تھا بلکہ اطمینان تھا۔ اور ان پر چاروں طرف سے رزق کی بہتات ہوتی تھی۔ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناقدری کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بد لے ان کو خوف اور بھوک نگ کا لباس پہنا دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے لباس کا لفظ استعمال فرایا ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے عجیب نکتہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح لباس بندے کے پورے جسم پر آتا ہے۔ اسی طرح بھوک کے آدمی کا پورا جسم نحیف ہوتا ہے۔ گویا وہ بھوک کا لباس ہے۔ اور جو بندہ ڈر جاتا ہے اس کا پورا جسم پیلا پڑ جاتا ہے۔ گویا وہ پیلا ہٹ بھی پورے جسم کا لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا یہ فرمادی ہے ہیں کہ جس طرح لباس پورے جسم پر پہنا دیتے ہیں اسی طرح ہم نے ان کو بھوک نگ اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ سننے قرآن عظیم الشان وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيْبَةَ كَانَتْ اِمَّةً مُطْمَئِنَّةً (النحل: ۱۱۲) اور اللہ مثال بیان فرماتا ہے ایک بستی والوں کی جن کے پاس امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا۔ يَا إِنَّهَا دِرْزٌ فِيهَا رَغْدًا أَمْنٌ كُلَّ مَكَانٍ ان پر چاروں طرف سے رزق کی بارش تھی مگر فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ پھر کیا ہوا؟ فَإِذَا قَهَّا اللَّهُ لِبَاسَنَ الْجُزُوعَ وَالْخُوفَ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (النحل: ۱۱۲) پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک نگ اور خوف کا لباس پہنا دیا کیونکہ وہ کرتوت ہی ایسے کیا کرتے تھے۔

## ہمارے شکوؤں کا علاج

میرے دوستو! آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بھوک

نگ اور خوف کا لباس ہمیں بھی پہنا دیا گیا ہو۔ لگتا تو یہی ہے کہ آج ہمیں بھی بھوک نگ اور خوف کا لباس پہنا دیا گیا ہے کونکہ ہر بندہ شکوہ کرتا پڑ رہا ہے، کار و بار والا بھی شکوہ کر رہا ہے اور ملازم بھی شکوہ کر رہا ہے۔ آج کا امیر بھی شکوہ کر رہا ہے اور غریب بھی شکوہ کر رہا ہے۔ خوف بھی ہر بندے کے دل میں ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، فلاں نے حملہ کر دیا تو کیا بنے گا، یوں لگتا ہے کہ ہماری نعمتوں کی ناقدریوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں بھوک نگ اور خوف کا لباس پہنا دیا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کریں۔

## شکوے کی پٹی

رابعہ بصریہ ایک مرتبہ کہیں کھڑی تھیں۔ ان کے قریب سے اپنے نوجوان گزار۔ اس نے اپنے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا! کیا ہوا؟ اس نے کہا، اماں! میرے سر میں درد ہے جس کی وجہ سے پٹی باندھی ہوئی ہے، پہلے تو کبھی درد نہیں ہوا۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا! آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہنے لگا، جی میری عمر تیس سال ہے۔ یہ سن کر وہ فرمائے لگیں، بیٹا! تیرے سر میں تیس سال تک درد نہیں ہوا تو نے شکر کی پٹی تو کبھی نہ باندھی، تجھے پہلی دفعہ درد ہوا ہے تو تو نے شکوے شکایت کی پٹی فوراً باندھ لی ہے۔ ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم سالہا سال اس کی نعمتوں اور سکون کی زندگی گزارتے ہیں، ہم اس کا تو شکر ادا نہیں کرتے اور جب ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔

## میاں بیوی کے شکوئے

میاں اپنی بیوی کو پوری زندگی سکون مہیا کرے اور کبھی ذرا سی تنگی آئے تو وہ کہنے لگتی ہے کہ میں نے تیرے گھر میں آ کر دیکھا ہی کیا ہے۔ آپ جو کچھ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لئے کرتے ہیں کونسا میرے لئے کرتے ہیں۔ ایسے ہی ناشکری کے بول بولنا شروع کر دیتی ہے۔ یہی حال خادموں کا ہے۔ بیویاں تو گھر میں باندیوں کی طرح رہتی ہیں اور پاکدا من زندگیاں گزارتی ہیں مگر وہ ان کی پرواہی نہیں کرتے۔ بلکہ اگر وہ بات کرنا چاہیں تو وہ ان کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ بھی ناشکری کرنے والے ہیں۔

## شکر کرنے والے سائل کی وجہی

ایک مرتبہ مرتبہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف فرماتھے۔ آپ ﷺ کے پاس ایک سائل آیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی ﷺ میں محتاج ہوں اس لئے اللہ کے لئے مجھے کچھ دے دیجئے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس ایک کھجور تھی۔ آپ ﷺ نے وہ کھجور اٹھا کر اس سائل کو دے دی۔ اس سائل نے کھجور تو لے لی مگر اس کو اطمینان نہ ہوا اور وہ مزید کا طلبگار ہوا۔ بالآخر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسے بھیج ہی دیا۔

تحوڑی دیر کے بعد ایک اور سائل آیا۔ اس نے بھی سوال کیا۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک کھجور اس کو بھی دے دی۔ وہ کھجور لے کر بہت ہی خوش ہوا کہ مجھے اللہ کے محبوب ﷺ کے ہاتھوں سے کھجور ملی ہے۔ وہ آپ ﷺ کا شکر ادا کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے یہ کھجور

عطای کر دی۔ جب اس نے نعمت کی قدر دانی کی تو اللہ کے محبوب ﷺ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ ام سلمیؓ کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ کیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لئے کچھ موجود ہے؟ وہ گئی اور ام سلمیؓ نے اس کے ہاتھ چالیس دینار بھیجے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب ﷺ نے وہ چالیس دینار بھی اس دوسرے سائل کو عطا فرمادیئے۔

### شکر کرنے والی بیوی کا مقام

حضرت ابراہیم ﷺ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہم السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ گئے۔ اس وقت وہ ایک ایک ایک وادی تھی جہاں سبزہ کا نام دنشان بھی نہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہم السلام جب جوان ہوئے تو ان کا نکاح قبلیہ بنو جرہیم کی ایک لڑکی سے ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہم السلام شکار کرنے جاتے تھے اور اس سے جو کچھ ملتا تھا اسی سے گزر بسر ہوتا تھا۔ شکار ایک ہواںی روزی ہوتی ہے لہذا کبھی شکار ملتا اور کبھی نہ ملتا۔

ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہم السلام شکار کو گئے ہوئے تھے کہ چیچھے حضرت ابراہیم علیہم السلام ملنے ان کے گھر آئے۔ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ سناؤ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، بس زندگی گزر رہی ہے۔ کبھی شکار ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا، بہت تنگی کا وقت گزر رہا ہے بہر حال گزارا ہو رہا ہے۔ اس نے اس طرح ناشکری کے الفاظ کہے۔ حضرت ابراہیم علیہم السلام نے کچھ دیرانتظار کیا اور پھر فرمایا، اچھا مجھے واپس جانا ہے، جب تمہارے شوہر آئیں تو انہیں میرا سلام دینا اور ان سے کہہ دینا کہ تمہارے گھر کی چوکھت اچھی نہیں ہے اسے بدل لینا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے، وہ عورت حضرت ابراہیم علیہم السلام کی بات نہ سمجھ سکی۔

جب حضرت اسماعیل علیہم گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے انہیں حضرت ابراہیم علیہم کا پورا پیغام سنادیا۔ وہ فرمانے لگے کہ وہ تو میرے لد گرامی تھے۔ میری ان سے ملاقات تو نہیں ہو سکی البتہ وہ مجھے ایک پیغام دے گئے ہی کہ گھر کی چوکھت اچھی نہیں ہے اسے بدل دینا۔ یعنی تمہاری بیوی ناشکری ہے اسے بدل دینا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے کر اسے فارغ کر دیا۔

کچھ عرصہ کے بعد ایک اور قبیلہ کی لڑکی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہم کی شادی ہوئی۔ اب یہ عورت بڑی صابرہ شاکرہ تھی۔ سال دو سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہم پھر تشریف لائے۔ اب کی بار بھی حضرت اسماعیل علیہم گھر پر موجود نہیں تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا، سناؤ کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اتنا نیک خاوند عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے اچھے اخلاق والا، اچھے کردار والا، متقی اور پرہیزگار اور محبت کرنے والا خاوند دیا ہے، میں تو اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتی۔

حضرت ابراہیم علیہم نے پوچھا کھانا پینا کیسا ہے؟ کہنے لگیں، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو ملتا ہے ہم دونوں کھایتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر لیتے ہیں اور اگر نہیں ملتا تو صبر کر لیتے ہیں۔ جب اس نے شکر کی اچھی اچھی باتیں کیں تو حضرت ابراہیم علیہم کا دل خوش ہو گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہم نے فرمایا، اچھا میں اب چلا ہوں، تم اپنے خاوند کو میری طرف سے سلام دینا اور کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھت بڑی اچھی ہے لہذا تم اس کی حفاظت کرنا۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہم واپس چلے گئے۔

جب حضرت اسماعیل علیہم والپس گھر تشریف لائے تو ان کی بیوی نے ان کو پیغام دیا۔ جب حضرت اسماعیل نے پیغام سناتو وہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ وہ میرے والد گرامی تھے اور وہ مجھے پیغام دے گئے ہیں کہ تم ایک اچھی بیوی ہو، مجھے تمہاری قدر کرنی ہے اور مجھے زندگی بھرا پنے ساتھ رکھنا ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہم کی وہ بیوی تھیں جو حضرت اسماعیل علیہم سے حاملہ ہوئیں اور ان کی نسل اس عورت سے آگئے چلی۔

### ایک ولچسپ نکتہ

علماء نے یہاں ایک نکتہ لکھا ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہم کی نسل کو آگے چلانا تھا اور اس نسل میں سے اللہ کے محبوب ملئیلہم کے نے پیدا ہونا تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے پسند نہ کیا کہ میرے محبوب ملئیلہم کے اجداد میں کوئی ناشکری عورت ہو۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ناشکری عورت کو طلاق دلوادی اور شکر کرنے والی عورت گھر میں لا لی گئی اور اس سے آگے اپنے محبوب ملئیلہم کو پیدا فرمادیا۔ سبحان اللہ

### حج کے موقع پر اظہار تشکر

حضرت سید نفیس شاہ صاحب دامت برکاتہم نے حج کے موقع پر شکر کے بارے میں عجیب اشعار لکھے۔ وہ آپ کو بھی سناؤ دیتا ہوں۔

شکر ہے تیرا ندا یا ، میں تو اس قابل نہ تھا  
تو نے اپنے گھر بایا ، میں تو اس قابل نہ تھا  
اپنا دیوانہ بنایا ، میں تو اس قابل نہ تھا

گرد کعبے کے پھرایا ، میں تو اس قابل نہ تھا  
 مدتیں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا  
 جام زم زم کا پلایا ، میں تو اس قابل نہ تھا  
 ڈال دی شنڈک مرے سینے میں تو نے ساقیا  
 اپنے سینے سے لگایا ، میں تو اس قابل نہ تھا  
 بھاگیا میری زبان کو ذکر الا اللہ کا  
 یہ سبق کس نے پڑھایا ، میں تو اس قابل نہ تھا  
 خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے  
 یوں نہیں در در پھرایا ، میں تو اس قابل نہ تھا  
 میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا  
 پر نہیں تو نے بھلایا ، میں تو اس قابل نہ تھا  
 میں کہ تھا بے راہ تو نے دھیگری آپ کی  
 تو ہی مجھ کو در پہ لایا ، میں تو اس قابل نہ تھا  
 عہد جو روز ازل میں نے کیا تھا یا دے  
 عہد وہ کس نے نہایا ، میں تو اس قابل نہ تھا  
 تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب  
 گند خضراء کا سایہ ، میں تو اس قابل نہ تھا  
 میں نے جو دیکھا سو دیکھا بارگاہ قدس میں  
 اور جو پایا نو پایا ، میں تو اس قابل نہ تھا  
 بارگاہ سید الکونین میں آکر نفیں  
 سوچتا ہوں کیسے آیا ، میں تو اس قابل نہ تھا

## ہمارے دلوں میں اسباب کی اہمیت

کتنی عجیب بات ہے کہ وہ دکان اور دفتر جس سے انسان کو سب کے طور پر رزق ملتا ہے۔ وہاں وہ روزانہ آٹھ گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے۔ اے انسان! جس سب سے تجھ کو رزق ملتا ہے اس سب پر محنت کرنے میں روزانہ آٹھ گھنٹے لگاتا ہے اور مسبب الاصابہ جہاں سے بغیر سب کے رزق ملتا ہے اس کے سامنے دامن پھیلانے کی تجویز آٹھ منٹ کی بھی فرصت نہیں ہے۔ کیا کبھی کسی نے آٹھ منٹ تجدید کے وقت اللہ کے سامنے دامن پھیلایا؟ وہاں تو سب کے بغیر ڈائریکٹ مل رہا ہوتا ہے۔ ارے! واسطے کے ذریعے لینے پر آٹھ گھنٹے اور جہاں سے بلا واسطہ ملتا ہے وہاں آٹھ منٹ بھی نہیں دیتے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم تہائی میں اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھیں اور اپنے سب احوال اسی کے سامنے بیان کریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ ہر چیز اسی سے مانگے اور ہر وقت اسی سے مانگے اور نعمتیں ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔

## حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شکر الہی

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ اے اللہ! کیف اشکر ک میں آپ کا شکر کیسے ادا کروں کیونکہ آپ کی ایک نعمت ایسی ہے کہ میں ساری زندگی بھی عبادت میں لگا رہوں تو میں صرف ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، اور آپ کی تو بے انتہاء نعمتیں ہیں۔ میں ان سب نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے اک

وقت ان پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے موئی! اگر آپ کے دل کی یہ آواز ہے کہ آپ ساری زندگی شکر ادا کریں تو پھر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے تو سن لے کہ الان شکر تھی اب تو آپ نے میرا شکر ادا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔

## رزق پہنچانے والا ڈاکیا

میرے دوستو! بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے انسان کو رزق کی فراوانی اس لئے بھی زیادہ دی ہوتی ہے کہ وہ رزق اس کا اپنا نہیں ہوتا بلکہ وہ طلباء، غرباء اور اللہ کے دوسرا سخت بندوں کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لئے دیا ہوتا ہے تاکہ وہ ان تک یہ پہنچا دے۔ مگر جب وہ اللہ کے راستے پر خرچ نہیں کرتا اور ڈاک نہیں پہنچاتا تو اللہ تعالیٰ اس ڈاکیے کو معزول کر دیتے ہیں۔ اور اس کی جگہ کسی اور کو ذریعہ بنادیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو کھلا رزق دیتا ہے جو ان کے اپنے رزق سے زیادہ ہوتا ہے۔ کس لئے؟ اس لئے وہ حق داروں تک صدقہ و خیرات کی شکل میں وہ مال پہنچا دے۔ اور جب وہ مال حق داروں تک نہیں پہنچاتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس نعمت سے محروم فرمادیتے ہیں اور ان کی جگہ کسی اور کو وہ رزق دے دینے ہیں جو صحیح صحیح اس کے مستحق بندوں تک پہنچا دیا کرتے ہیں۔

اس لئے جب اللہ تعالیٰ ضرورت سے زیادہ رزق دے تو سمجھیں کہ اس میں صرف میرا ہی حق نہیں ہے بلکہ وَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِّلْسَائِلِ وَ لَمْخُرُومٌ (المعارج: ۲۳، ۲۵) کے مصدق اس میں اللہ کے بندوں کا بھی حق ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ہے۔ رب کریم ہمیں اپنی نعمتوں

کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمادیں اور ہمیں محرومیوں سے محفوظ فرمادیں۔ کفار کے سامنے ذلیل و رسوایونے سے محفوظ فرمائیں اور جس طرح پروردگار نے ہمارے سر کو غیر کے سامنے جھکنے سے بچالیا وہ پروردگار ہمارے ہاتھوں کو بھی غیر کے سامنے پھینئے سے محفوظ فرمائے۔ (آمین ثم آمین)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



## علم کی فضیلت

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰی وَسَلَّمَ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِینَ اضطُفَنِی اَمَا بَعْدُ!  
 اَغُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝  
 وَالرَّبِّيْبَانِيْوَنَ وَالاَخْبَارِ بِمَا اسْتَخْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَكَانُوا  
 عَلٰی هِ شَهَدَةَ (ما دَه: ۳۳). وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی فِي مَقَامِ اخْرِ كُوْنُوا  
 رَبَّانِيْسَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَذَرُّسُونَ ۝ (آل  
 عمران: ۹۷) وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ تَعَالٰی لِلعلماءِ وَرَثَةِ الانبياءِ.  
 سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصْفُونَ وَسَلَّمَ عَلٰی الْمُرْسَلِيْنَ  
 وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ۝

## عارضی اور دامگی زندگی

دنیا میں ہر انسان عزت بھری زندگی چاہتا ہے۔ عزت و طرح سے ملتی ہے۔ ایک مال سے اور دوسرا نیک اعمال سے۔ مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو عزت مال سے ملتی ہے وہ مال کی طرح فانی اور عارضی ہوتی ہے۔ بقول شخصی:

جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہو گا

اسی لئے مال کی بنیاد پر عزت میں پانے والے دنیا کے اندر بہت جلدی جو توں میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ ہم نے کئی بار مشاہدہ کیا ہے کہ ایک آدمی آج صدر ہے کل ملک بدر ہے، آج امیر ہے کل فقیر ہے، آج وزیر ہے کل اسیر ہے، آج وزیر اعظم ہے کل کو اسیر اعظم ہے۔ لہذا مال سے ملنے والی عزت

ذہلتی چھاؤں کی مانند ہے۔ اس کے بال مقابل جو عزت نیک اعمال سے ملتی ہے وہ داکی ہوتی ہے کیونکہ نیک اعمال باقیات الصالحات میں سے ہوتے ہیں۔ نیک اعمال کے لئے انسان کو علم کی ضرورت ہوتی ہے گویا جو انسان علم حاصل کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت کی عزتیں پاتا ہے۔

## سیدنا آدم علیہم السلام کی فرشتوں پر برتری

اللَّهُ رَبُّ الْعِزَّةِ نے جب اس کائنات کو سجانا پسند فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا:

**إِنَّى جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً** (آل بقرہ: ٣٠)

(میں زمین میں اپنا ایک نائب بنارہا ہوں)

فرشتوں نے عرض کیا، پروردگار عالم! آپ ایسے آدمی کو خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فساد چاہئے گا اور خون بھائے گا۔ **نَحْنُ نُسْبِحُ بِحَمْدِكَ وَ نَقِدِسُ لَكَ** ہم آپ کے نام کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں، یعنی جب ہم عبادت کرتے ہیں تو پھر کسی اور کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ** فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کو علم عطا کیا۔ **وَعَلِمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا** (آل بقرہ: ٣١) ، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم الاسماء یعنی علم الایشیاء عطا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام سناؤ۔ وہ کہنے لگے **سُبْخَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْغَلِيلِ إِنَّمَا الْحَكِيمُ** ۵ (آل بقرہ: ٣٢) یعنی ہم تو ان چیزوں کے نام نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہم السلام سے پوچھا تو انہوں

نے اسی وقت ان چیزوں کے نام بتا دیئے۔

## سیدنا آدم علیہ السلام کا انعام

سیدنا آدم علیہ السلام اس امتحان میں پاس ہو گئے۔ یہ دستور ہے کہ جب بھی کوئی امتحان میں پاس ہوتا ہے تو اسے انعام ملا کرتا ہے۔ بلکہ دنیا والے کوشش کرتے ہیں کہ ایسا انعام دیا جائے جو کہ مدتول یاد رہے۔ وہ اس مقصد کے لئے شرطیت اور شیلہ بنایا کر دیتے ہیں۔ تاکہ وہ طالب علم انہیں یادگار کے طور پر اپنے گھر میں لگائے اور پھر پوری زندگی یاد رکھے کہ میں نے نمایاں کامیابی حاصل کیا تھی۔ پورا گار سالم نے بھی سیدنا آدم علیہ السلام کو امتحان میں پاس ہونے پر جو انعام دیا اسے رہتی دنیا یاد کرے گی۔ وہ انعام یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو "مُحْمَدُ الْمَلَائِكَةِ" بتا دیا۔ اتنا یہ انعام!!! یہ حق تو التدرب العزت کا تھا مگر مالک کو اختیار ہے۔ چنانچہ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔

## سجدہ کرنے میں حضرت اسرافیل علیہم کی پہلی

حدیث پاک میں آیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہم نے حضرت آدم علیہم کو سجدہ کیا۔ پھر جبریل علیہم نے اس کے بعد دوسرے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لیکن شیطان مردود نے انکار کیا ابنی وَأَنْتَ كَبْرَ وَ كَانَ مِنَ الْكَفَّارِينَ (آل بقرہ: ۳۲) اس نے تکبر کیا اور کافر بن گیا۔

## دواہم با تینیں

یہاں پر دو با تینیں سمجھنے کے قابل ہیں۔ چونکہ روایات میں آتا ہے کہ

حضرت اسرائیل ﷺ نے سب سے پہلے سجدہ کیا اس لئے ان کو یہ اعزاز ملا کہ اللہ رب العزت نے ان کی پیشانی پر پورے قرآن مجید کو لکھوا دیا۔ اسی بناء پر علماء نے لکھا ہے کہ علم ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ عالم کو تو عزتیں ملتی ہی ہیں جو شخص کسی عالم کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی انعام کا مستحق بن جاتا ہے۔ ایک انعام حضرت آدم ﷺ کو علم کی وجہ سے ملا تھا جو کہ بہت بڑا انعام تھا۔ اور جنہوں نے عالم (حضرت آدم ﷺ) کا اکرام کرتے ہوئے سب سے پہلے سجدہ کیا اللہ رب العزت نے ان کو بھی انعام سے فواز دیا۔ اور جس نے عالم کا اکرام نہ کیا وہ عزاز ملی تھا۔ اس نے دنیا کے چھپے چھپے پر سجدہ کیا۔ اس کی زندگی اتنی عبادت سے بھری ہوئی تھی مگر اس نے ایک عالم (حضرت آدم ﷺ) کی بے ادبی کی اور مقابلہ پر آگیا اور کہنے لگا آتا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتُ مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتُهُ مِنْ طِينٍ (الاعراف: ۱۲) میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بننا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اسے پھٹکا رہا یا اور وہ ہمیشہ کے لئے راندہ درگاہ بن گیا۔ فرمایا ان علیک لغتتیٰ إِلَى يَوْمِ الدِّين (ص: ۸۷) بے شک تمہارے اوپر قیامت تک میری لعنت برستی رہے گی۔

## علم کا مقام

اللہ رب العزت کے ہاں علم کا بڑا مقام ہے۔ کہاں آدم ﷺ جو مٹی سے بنے اور کہاں فرشتے جو نور سے بنے۔ اور نور سے بننے والی بھی وہ مخلوق جو ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يُسْتَكْبِرُونَ غُنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَا. يَسْبِحُونَ اللَّيلَ وَالنَّهارَ لَا يَفْتَرُونَ۔ اللہ کے

پاس جو بھی فوق العرش مخلوق ہے وہ ہر وقت اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ان کے ہاں افظار نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کہاں یہ خاک اور کہاں وہ عالم پاک۔ مگر علم ایک ایسی نعمت تھی جس نے اس خاک کو اس عالم پاک کا بھی موجود بنادیا۔ دستور یہ ہے کہ اندر ہیری رات میں جگنو کی روشنی بھی اچھی لگتی ہے۔ علم کتنی لاجواب نعمت ہے کہ تھوڑی سی بھی ہوتا پلہ بھاری رہتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ حضرت آدمؑ کو علم الاسماء یعنی علم الاشیاء حاصل ہوئے پھر یہ انعام ملا تو پھر جس انسان کو اسماء الحشری کی معرفت نصیب ہوگی اسے قیامت کے دن کیا انعام ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرا

### سیدنا آدم ﷺ اور صنعت و حرفت کا علم

یہ کائنات زمین سے لے کر آسمان تک یعنی فرش سے لیکر عرش تک علم الہی کا مدرسہ ہے۔ اس مدرسہ کے سب سے پہلے معلم سیدنا آدم ﷺ تھے۔ روایات میں آیا ہے کہ وہ اس دنیا میں زراعت اور صنعت و حرفت کا علم لے کر آئے۔ حضرت آدمؑ نے اپنی اولاد کو زراعت اور صنعت و حرفت کا علم سکھایا اور معلم اول بنے۔

### سیدنا اور لیس ﷺ اور کتابت کا علم

ان کے بعد حضرت اور لیس ﷺ آئے۔ احادیث میں آیا ہے کہ انہوں نے دنیا میں علم کو قلم کے ذریعہ پھیلایا۔ علم بالقلم انہوں نے اس کی سب سے پہلے خدمت کی۔ ان سے پہلے علم زبانی کلامی تو دوسروں تک پہنچتا تھا لیکن قلم سے مد نہیں لی جاتی تھی۔ لہذا کلام کو ضبط تحریر میں لانے کا علم سب سے پہلے دنیا میں حضرت اور لیس ﷺ لائے۔ انہوں نے عبرانی اور سریانی زبان اور بعض

روايات، میں آیا ہے کہ عربی زبان کی بنیاد ڈالی۔ سب سے پہلے حروف بنے، پھر الفاظ اور پھر پھر وہ پر لکھنا شروع کیا گیا۔

## سیدنا نوح عليه السلام اور حلال و حرام کا علم

ان کے بعد سیدنا نوح عليه السلام تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے ان کو لکڑی سے چیزیں بنانے کا علم دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کشتی بنائی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال اور حرام کا علم دے کے بھیجا۔ دنیا میں سب سے پہلے حلال و حرام کا علم حضرت نوح عليه السلام لے کر آئے۔ گویا وہاں سے حلال و حرام کی ابتداء ہوئی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اُنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَكَماً أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَ النَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ (النَّاسَاء: ۱۶۳) اس آیت میں سیدنا نوح عليه السلام کا نام خاص طور پر آیا ہے۔

## لباسِ شریعت کی تکمیل

گویا شریعت کی ابتداء حضرت نوح عليه السلام سے ہوئی۔ اس کی مثال یوں مجھیں کہ جیسے چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے دن ہی اس کو لباس نہیں پہنادیتے کیونکہ چھوٹا سا ہوتا ہے۔ لہس ایک کپڑا سا پاندھ دیتے ہیں تاکہ گندگی نہ پھلے۔ شروع میں اس کا جسم ایسے ہی بغیر لباس کے رہتا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد اس کا ایک چھوٹا سا لباس بنایا جاتا ہے۔ جیسے اس کی عمر بڑھتی رہتی ہے ویسے ہی اس کا لباس بھی نیا بنانا پڑتا ہے۔ قد بڑھنے کے ساتھ ساتھ لباس کا سائز بھی بڑھتا رہتا ہے۔ عموماً تیس پینتیس سال کی عمر میں انسان کا جسم اتنی قد و قامت اختیار کر لیتا ہے کہ اس کے بعد اس کا لباس پوری عمر کیلئے اسی سائز کا چلتا رہتا ہے۔

یہی انسانیت کی مثال ہے کہ شروع میں انسان کو کسی چیز کا پڑھنے کی نہیں تھا اس لئے اسے زراعت کا علم دیا، صنعت و حرفت کا علم دیا اور علم کو قلم کے ذریعے ضبط کرنے کا علم دیا اس کے بعد ایک وقت آیا کہ جب اسے حلال و حرام کا علم دیا۔ گویا یہ سب سے پہلا لباس شریعت تھا جو انسانیت پہن رہی تھی۔ پھر انہیاء تشریف لاتے رہے تو اس لباس شریعت کا سائز بڑھتا گیا، شریعت اور زیادہ کامل ہوتی گئی۔ حتیٰ کہ جب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے تو انسانیت اپنی جوانی تک پہنچ چکی تھی۔ اس لئے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام شریعت کا ایک ایسا لباس لائے کہ قیامت تک اس کا سائز بد لئے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہذا دین اسلام قیامت تک آنے والی انسانیت کیلئے کافی وافی اور شافی ہے۔

### انہیائے کرام اور تخصیص علوم

دنیا میں انہیائے کرام مختلف علوم و فنون لائے۔ یوں سمجھتے کہ جیسے ایک ہی سکول میں مختلف مضمون کے استاد ہوتے ہیں۔ انہوں نے علم تو سارا پڑھا ہوتا ہے مگر کسی ایک مضمون میں تخصص کیا ہوتا ہے۔ کوئی ریاضی کا اپیشیلسٹ ہوتا ہے، کوئی انگریزی کا، کوئی اسلامیات کا، کوئی سائنس اور کوئی اردو کا ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف انہیائے کرام شریعت کا علم تو لائے مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی نہ کسی ایک علم میں تخصیص عطا فرمادی۔

### سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور علم مناظرہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں علم مناظرہ لے کر آئے۔ مناظر کے لئے تین باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں غور و فکر کرنے کی عادت ہو،

دوسری یہ کہ اس کا اپنادل مطمئن ہوا اور تیسری یہ کہ جب مخالف کوئی بات کرے تو ایسا مسکت جواب دے کہ اس کی زبان بند ہو جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں تینوں خوبیاں تھیں۔ ان کے اندر غور و فکر کی اتنی عادت تھی کہ جب ساروں کو دیکھا تو کہنے لگے، هذاربی کہ یہ میرارب ہے لیکن جب دیکھا کہ و غروب ہو گئے تو فرمانے لگے کہ غروب ہونے والا تو پروردگار نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ رب نہیں ہے۔ اس کے بعد چاند طلوع ہوا اسے دیکھ کر فرمانے لگے هذاربی کہ یہ میرارب ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا، یہ بھی پروردگار نہیں ہے۔ پھر سورج پر نظر پڑی تو فرمانے لگے هذاربی هذا اکابر کہ یہ میرارب ہے کیونکہ یہ بڑا ہے۔ فَلَمَّا أَفْلَأَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ (الانعام: ۷۹)، میں نے اپنارخ اس ذات کی طرف کر لیا جوز میں و آسمان کو پیدا کرنے والی ہے۔

منظار کی دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز میں غور و فکر کر کے اطمینان قلب حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہم کو یہ نعمت بھی عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ! کیف تُخْبِي الْمَوْتَىٰ آپ مردے کو کیسے زندہ فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، أَوْلَمْ تُؤْمِنْ کیا آپ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے؟! عرض کیا، اے پروردگار! اس بات پر میرا پکا ایمان ہے۔ وَلَكِنْ لَيَطْمَئِنَ قُلُّهُ میں تو صرف دل کے اطمینان کے لئے پوچھ رہا ہوں، چنانچہ اللہ رب العزت نے چند مردہ پرندوں کو زندہ کر کے دکھادیا۔

جب حضرت ابراہیم علیہم السلام کے دل میں اطمینان آگیا تو اس کیلئے ہونے کے باوجود نمرود کے دربار میں مناظرہ کرتے ہیں اور اسے چپ کرادیتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہم السلام کو بلا یا اور پوچھا کہ تم مجھے خدا کیوں نہیں مانتے؟ سیدنا حضرت ابراہیم علیہم السلام نے فرمایا، میرا خدا تو وہ ہے جو زندوں کو مار دیتا ہے اور مرے ہوؤں کو زندہ کر دیتا ہے۔ نمرود تو بہت ہی کم عقل انسان تھا، اگر عقل تھی بھی سہی تو اس نے سنبھال لے رکھی ہوئی تھی استعمال نہیں کرتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ چنانچہ ایک بے گناہ آدمی کو بلا کر اس نے قتل کروادیا اور ایک گنہگار کو بلا کر اسے معاف کر دیا، اور کہنے لگا، یہ زندہ اور مردہ کرنے والا کام تو میں نے بھی کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہم السلام سمجھ گئے کہ کبھی نیز ہی انگلی سے نکالتا پڑے گا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، اچھا إِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمُشْرَقِ فَاتَّ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبِهِتَ الَّذِي كَفَرَ میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تیرا کچھ اختیار ہے تو سورج کو مغرب کی طرف سے طلوع کر کے دکھا، یہ سن کر نمرود بالکل ہی مبہوت ہو کر رہ گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب بھی نہ تھا۔

## سیدنا یوسف علیہم السلام اور خوابوں کی تعبیر کا علم

سیدنا یوسف علیہم السلام اس دنیا میں علم تعبیر الرؤیا لے کر آئے۔ جسے خوابوں کی تعبیر کا علم کہتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہم السلام جیل میں تھے اس وقت آپ نے دو آدمیوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ تعبیر کے مطابق ان میں سے ایک قتل ہو گیا اور دوسرے کو معافی مل گئی۔

ایک دفعہ بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اسے اس خواب کی تعبیر بتانے والا کوئی شخص نظر نہ آیا۔ ایک آدمی نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت! جیل میں ایک آدمی ہے میں اس سے اس خواب کی تعبیر پوچھتا ہوں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی ایسی تعبیر بتائی جو بادشاہ کے دل کو بھاگتی۔ حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آیا کہ بادشاہ نے اپنا تخت و تاج حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔

### ایک اہم نکتہ

یہاں پر ایک نکتہ غور طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دو چیزوں میں امتیاز عطا کیا تھا۔ ایک حسن میں اور دوسرا علم التعبیر میں۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی یوسف صیحؒ تھے۔ اتنے خوبصورت اور گورے پڑے تھے کہ زنان مصروف کر کہنے لگیں ماہذا بشرًا ان هذَا إِلَّا ملْكٌ كَرِيمٌ (یوسف: ۳۱) کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی مکرم فرشتہ ہے۔ جو دیکھتا تھا دل دے بیٹھتا تھا۔

حضرت یوسف علیہ السلام جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا فلمَا بَلَغَ أَشْدَهُ أَتِينَهُ حُكْمًا وَ عَلْمًا (یوسف: ۲۲) جب وہ بھر پور جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے ان کو علم عطا کیا۔ اس میں کونا علم خصوصیت کے ساتھ تھا؟ قرآن مجید میں ہے تاویل الاحادیث خوابوں کی تعبیر کا علم تھا۔

یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ان کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور وہ نکالے گئے تو نکالنے والوں نے ان کو بیچا۔ اس وقت ان کے پاس ان دونوں

میں سے ایک نعمت تھی۔ حسن و جمال والی نعمت۔ ان کو حسن و جمال مان کے پیش سے ملا تھا اور جب اٹھتی جوانی ہوتے پھر تو حسن اور بھی دلش ہوتا ہے۔ ان کے پاس حسن کی انتہاء تھی۔ اس وقت ان کو بچا گیا۔ ان کی قیمت بھلا کتنی لگی؟ قرآن مجید نے اس سوال کا جواب یوں دیا۔ وَ شَرُوْهُ بِشَمِّنِ بَخْسٍ ذَرَاهِمٍ مَعْدُوْذَةٍ (یوسف: ۲۰) چند کھونٹے سکے۔ معلوم ہوا کہ جب حسن علم سے علیحدہ ہوتا ہے تو اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ حسن کی کوئی قیمت نہیں۔ حسن والوں کے لئے کتنی عبرت کی بات ہے کہ حسن یوسف کی قیمت دو تین کھونٹے سکے لگ رہی تھی۔ حسن کی پوجا کرنے والے چند کھونٹے سکے کی متاع کے پیچے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یوسف علیہم کو علم عطا فرمادیا تو ان پر امتحان آیا۔ بالآخر اللہ رب العزت نے ان کو اس آزمائش میں کامیاب فرمادیا۔ جیل میں بھی گئے اور بالآخر ایک وہ وقت بھی آیا جب ان کو جیل سے نکالا گیا اور پوچھا گیا کہ اب نقطہ آئے گا تو آپ ہی بتائیں کہ ہم اس آزمائش کا سامنا کیے کریں۔ فرمایا جعلیٰ علیٰ خَزَانَ الْأَرْضِ (یوسف: ۵۵) مجھے آپ فناس مشریعی خزانوں کا والی بنادیں۔ چنانچہ ان کو فناس مشرب بنادیا گیا۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت علم کے ذریعے عزت دے رہے ہیں۔ عزت بھی کیا طی کہ تخت پر بینہ کر خزانے تقسیم کر رہے ہیں۔

ایک وہ وقت بھی آیا جب بھائی غله لینے کے لئے آئے۔ حضرت یوسف علیہم نے ایک حیلے سے اپنے بھائی بنیامن کو اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر دوبارہ بھائی آئے تو کہنے لگے، يَا إِيَّاهَا الْغَرِيْزُ اَعْزِيزُ مَصْرَ اَمْسَنَا وَ أَهْلَنَا الضرُّ

ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگدستی نے بے حال کر دیا ہے۔ وَ جَنَّا بِضَاعَةً  
مُزْجَاتْ هُمُ الْيَسِيَّ قِيمَتَ لَا يَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِهِ بِهِ نَهِيْس۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ آپ  
ہمیں غلہ پورا دے دیں۔ وَ تَصَدَّقَ عَلَيْنَا اور ہم پر صدقہ و خیرات کر دیں۔  
إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ اللَّهُ تَعَالَى صَدَقَ دِينَ وَالْوَوْنَ كَوْجَازِيْتے میں۔

جب حضرت یوسف ﷺ نے یہ دیکھا کہ میں بھی نبی ﷺ کا جیٹا ہوں اور  
یہ بھی نبی کے بیٹے ہیں اور یہ میرے سامنے کھڑے بھیک مانگ رہے ہیں تو اس  
وقت انہوں نے ان سے پوچھا ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ تم نے یوسف کے ساتھ کیا  
سلوک کیا تھا؟ یہ سن کر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور پوچھنے لگے، اُنکے لانت  
یُوْسُفَ کیا آپ یوسف (علیہ السلام) ہیں؟ انہوں نے فرمایا افَا يَوْنَفْ بَاں  
میں یوسف ہوں وَ هَذَا أَخْيُ اور یہ میرا بھائی بنی ایمین ہے۔ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا  
تحقیق اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمادیا۔ إِنَّهُ مَنْ يَتَقَّ وَ يَضْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا  
يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (یوسف: ۹۰) کہ جو انسان اپنے اندر تقویٰ اور صبر  
و ضبط کو پیدا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے۔  
ہر دور اور ہر زمانے میں جو حضرت یوسف ﷺ کے بھائیوں کی طرح نفس کا  
پنجاری بننے گا اللہ تعالیٰ اسے فرش پر کھڑا کریں گے اور جو حضرت یوسف ﷺ  
کی طرح تقویٰ والی زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اسے عرش (تحت) پر بٹھائیں  
گے۔

## سیدنا و اُولیاء السلام اور زرہ بنانے کا علم

حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لو ہے سے زرہ بنانے کا علم عطا  
کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ إِنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (سباء: ۱۰) کہ ہم نے ان کے

لئے لو ہے کو نرم کر دیا۔ وہ لو ہے کی کڑیاں بناتے تھے۔ پھر ان کو جو زکر زرہ بناتے تھے جو اس دور میں جنگ میں کام آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیہ خاص علم دیا تھا جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں فرمایا وَ عَلِمْتُهُ  
**صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ** (الاتبیاء: ۸۰) کہ ہم نے ان کو لباس (زرہ) بنانے کا علم دیا۔ اس علم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو شاہی عطا فرمائی۔ حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد تو بادشاہ نہیں تھے۔

### سیدنا سلیمان علیہم السلام اور پرندوں سے ہمکلام ہونے کا علم

ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہم السلام بادشاہ بنے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہم السلام بھی تھے اور وقت کے بادشاہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی شاہی دی جو دنیا میں نہ کسی کو پہلے ملی اور نہ بعد میں ملے گی۔ ان کی شاہی انسانوں پر بھی، جنوں پر بھی، پرندوں پر بھی، مچھلوں پر بھی، اور ہوا پر بھی تھی۔ ان کو بھی ایک خاص علم دیا گیا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو فرمایا **إِنَّمَا الْأَنْسَانُ عَلَمَ مَا فِي الْأَرْضِ** (آل عمران: ۱۶) اے انسانو! اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرندوں کے ساتھ ہمکلام ہونے کا علم عطا فرمایا ہے۔

ایک دفعہ انہوں نے اپنے شکر میں دیکھا کہ ہدہ نہیں تھا۔ یہ ہدہ پرندہ اپنی چوچے سے زمین میں سوراخ کر کے بتاتا تھا کہ وہاں پانی سطح زمین سے قریب ہے یا نہیں۔ جب انہوں نے اسے غیر حاضر پایا تو فرمایا کہ یا تو یہ کوئی معقول وجہ بتائے یا پھر اسے سزا ملے گی۔ اتنے میں ہدہ آگیا۔ اس نے آ کر کہا کہ جی میں آپ کے پاس قوم سما کی ایک شہزادی کی خبر لے کر آیا ہوں۔ وہ سورج کی پرسش کرتی ہے۔

## ہدہ پرندے میں علم کی وجہ سے جرأت

اب نیہاں پر ذرا غور کیا جائے کہ کہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان اور کہاں چھوٹا سے ہدہ پرندہ۔ چونکہ اس کے پاس علم تھا اس لئے وہ بڑھ بڑھ کر بول رہا تھا۔ اس نے کہا احْطُّ بِعَالْمٍ تُحْطِّ بِهِ وَ جَنْتُكَ مِنْ سَبَابِيَ  
یقین (انہل ۲۲) میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جاتے اور میں قوم سبا کی ایک  
ٹھووس خبر لایا ہوں۔ اس پرندے کی کیا اوقات تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام  
کے سامنے بولے۔ مگر علم اس کو جرأت دے رہا تھا۔ چنانچہ اس کی خبر پر خطوط  
بھیجے گئے۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ ملکہ بلقیس خود آنے لگی۔

## آصف بن برخیا کا مقام

جب ملکہ بلقیس آرہی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جی چایا کہ میں اس  
کے آنے سے پہلے اس کا تخت منگوں۔ چنانچہ جب دربار لگا تو حضرت  
سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایشکم یا ائینی بغرض شہا قبل ان یا تو نی فسلمین  
(انہل ۳۸) کے تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے  
میرے پاس لا کر حاضر کر دے؟ قال عفريت مَنِ الْجَنِّ جنوں میں سے  
عفریت ناگی ایک جن تھا، وہ لکڑا ہوا اور اس نے کہا، آنا ائینک سہ قتل ان  
تَقْوِيمِ مَقَامِكَ (انہل ۳۹) میں وہ تخت آپ کی محفل برخاست ہونے  
سے پہلے آپ کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یوں  
تو بہت دیر ہو جائے گی، مجھے تو پہلے چاہئے۔ اس بات پر جن بھی چپ ہو گئے۔  
حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ کیا کوئی اور ہے جو یہ کام کر کے دکھائے۔

بالا خران کی محفل سے آصف بن برخیان اسی ایک آدمی کھڑا ہوا۔ قال الَّذِي  
عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَبِ كہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ علم کی  
شاید دیکھئے، علم کی طاقت دیکھئے۔ وہ کہنے لگا انا اتنیک بہ قبیل اُنْ يَرْتَدُ  
الَّتِي كَ طَرْفَكَ میں آپ کے پلک جھکنے سے پہلے وہ تحنت آپ کے پاس پہنچا  
دیتا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقْرًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي (انہل: ۳۰)  
حضرت سليمان علیہ السلام نے پلک جھپک کر دیکھا تو تحنت موجود تھا۔ آپ نے فرمایا  
کہ یہ میرے پور دگار کا فضل ہے۔ اس سے علم کی طاقت کا اندازہ تکھے کہ جو  
کام جن بھی نہ کر سکے وہ ایک عالم نے کر دکھایا۔

### حضرت خضر علیہ السلام اور امور تکوینیہ کا علم

علم میں اتنی عظمت ہے کہ ایک غیر نبی کو ایک نبی علیہ کا استاد بننے کا شرف  
نصیب ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ وہ نبی  
تو نہیں تھے البتہ بڑے اولیاء میں سے تھے۔ ان کی نبوت میں اختلاف ہے مگر  
ان کی ولایت پر اتفاق ہے۔ وہ غیر نبی تھے مگر ان کے پاس ایک علم تھا۔ جس کا  
ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوْجَدَ أَعْنَدًا مِنْ عَبَادِنَا أَتَيْنَاهُ رَحْمَةً  
مِنْ عِنْدِنَا وَ غَلْمَنَةً مِنْ لَدُنَّا عُلَمًا (الکہف: ۶۵) ان کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی  
عطای کر دیا تھا۔ جو کہ تکوینی امور کے بارے میں تھا۔ ایک شریعت کا علم ہوتا ہے  
اور دوسرا تکوینی علم ہوتا ہے۔ تکوینی علم حاصل کرنا ہمارے لئے ضروری نہیں  
ہے۔ یہ علم کائنات کا نظام چلنے سے متعلق ہے۔ ہمیں تو صرف شریعت کا علم  
حاصل کرنا ہے۔ انبیاء کرام شریعت کا علم لاتے رہے لیکن حضرت خضر علیہ  
کے پاس تکوینی علم تھا۔ ایک ایسا وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت

موئی کلیم اللہ علیہ کو بھیجا کہ آپ ذرا جا کر ان سے ملنے۔ یہاں یہ نکتہ غور طلب ہے کہ ایک نبی علیہ ایک نیرنبی کے پاس علم پانے کے لئے تشریف لے گئے۔

## عبدات کی تکمیل

پہلی شریعتوں میں عبادات جزوی طور پر تھیں جب کہ شریعت محمدی مدنظر نہ تھی میں وہ عبادات کامل ہو گئیں۔ مثلاً نماز پہلے بھی پڑھتے تھے مگر مکمل نماز نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مکمل نماز دے دی۔ روزے وہ بھی رکھتے تھے مگر مکمل نہ تھے۔ اس امت کو مکمل روزے مل گئے۔ ایک مثال ذراوضاحت سے سنتے کہ توحید کے قائل تو وہ بھی تھے لیکن ان میں تعظیمی سجدہ جائز تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ کو ان کے ماں باپ نے تعظیمی سجدہ کیا۔ اس امت کو بھی توحید کا سبق ملا لیکن اس کی تکمیل ہو گئی۔ یعنی وہ تمام چیزیں جن میں توحید کے خلاف کسی بات کا شک ہو سکتا تھا شریعت نے اس کو بھی بند کر دیا۔ مثلاً تصویر یہ بنانا حرام قرار دے دیا تاکہ بت نہ بنائے جا سکیں اور تعظیمی سجدہ حرام کر دیا گیا تاکہ غیر کی عبادت نہ ہو سکے۔ گویا ہر وہ چیز جو توحید کے خلاف ہو سکتی تھی شریعت نے ان کی مہادیات کو بھی بند کر دیا۔ یہ ہے تکمیل جس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی (المائدۃ ۳) (آج کے دن میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی)

## عالم کا مقام

میرے دوستو! اس دنیا میں علم کی شاہی ہے۔ بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ

اس دنیا میں علم کا راج ہے جب کہ علم پر میرے پروگار کا راج ہے۔ و فوق کل ذی علم علیم چونکہ دنیا میں علم کا راج ہے اس لئے انہیاے کرام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتیں بخشیں۔ یہ سلسلہ نبوت تو نبی علیہ السلام پر آ کر مکمل ہو گیا مگر چونکہ یہ نعمت قیامت تک جاری و ساری رہنی ہے اس لئے جو لوگ اس علم کو حاصل کریں گے اور آگے دوسروں تک پہنچا نہیں گے وہ علماء نبی علیہ السلام کے وارث کہاں میں گے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ العلماء ورثة الانبیاء انہوں نے وہی کام کرنا ہے جو نبی علیہ السلام نے دنیا میں آ کر کیا۔ اس نسبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی شان بڑھادی۔ کام بھی بڑا اور مقام بھی بڑا۔ مقام اتنا بڑا بخشا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد بزرار عبادت گزار ہوں تو بھی ایک عالم ان سے زیادہ بھاری ہے۔ عجیب بات ہے کہ بزرار عابدوں کی بات ہو رہی ہے۔ آخر وہ بھی عبادت گزار تو میں نا، فاسق و فاجر تو نہیں ہیں۔ بزرار عبادت گزار ایک طرف اور ایک عالم ایک طرف۔ یہ بات بندے کو تھوڑی دریے کے لئے حیران کرتی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے مگر سمجھنی آسان ہے۔

خور کیجئے کے علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ رب العزت شہنشاہ حقیقی ہیں۔ لہذا جس میں علم والی صفت آگئی اس میں شاہوں والی صفت آگئی۔ اور عبادت غلاموں کا کام ہوتا ہے۔ اگر غلاموں کی تعداد ایک بزرار بھی ہو تو کیا، ایک باوشہاہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفصلی علی ادنکم عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنیٰ شخص پر

ہے۔

## علمائے کرام کا فرض منصبی

علمائے کرام کا فرض منصبی اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے وَ الرَّبُّنِيُّونَ وَ الْأَخْبَارُ رَبُّنِيُّونَ یعنی ربِ والے، جنہیں ہم اللہ والے کہتے ہیں۔ احبار، حبر کی جمع ہے جس کا مطلب ہے علماء۔ ان دونوں کا فرض منصبی کیا ہے؟ بما استَخْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ (المائدہ: ۳۳) ان کا کام کتاب اللہ کی حفاظت کرنا ہے۔ گویا علماء اور صلحاء نے قرآن مجید کی ہر ہر آیت پڑا یہے ذالنے ہیں اور ان کو محفوظ کرنا ہے۔ نہ صرف یہی بلکہ اس کے پیغام کو دنیا کے ہر ہر بندے تک پہنچانا ہے اور کسی شریر کو اس میں اپنی مرضی شامل نہیں کرنے دینی۔ اس لئے علمائے کرام ہر اس بندے کے شر کو واضح کر دیتے ہیں جو تفسیر اور احادیث میں اپنی رائے کو شامل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ حق کو باطل سے واضح کر دیتے ہیں۔ علماء اور صلحاء کو پوری زندگی اس میں گزر لی چاہئے۔ لیکن اس کام میں تب آسانی ہوگی جب اخلاص کے ساتھ کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں۔ فرمایا کونوار بنیین یا امر کا صیغہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ علماء کو فرماتے ہیں کہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ کیوں؟ اس لئے کہ كُوْنُوْا رَبِّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَلَدِّيْسُونَ (آل عمران: ۹۷) تم کتاب (قرآن مجید) پڑھاتے ہو اور تم تدریس کا یہ کام کرتے ہو، اس لئے تمہیں چاہئے کہ تم اللہ والے بھی بن جاؤ۔

## علم کا مقصود

علامے کرام جب بھی اخلاص کے ساتھ دین کا کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر وہی برکتیں نازل فرمائیں گے جو انہیاً نے کرام کی زندگیوں میں نازل ہوا کرتی تھیں۔ علم کا مقصود اخلاص ہے اور اخلاص کے بغیر کام نہیں چلتا۔ دین کا کام خلوص سے چلتا ہے فلوس (پیے) سے نہیں چلتا۔

## اخلاص کا تاج محل

اکابرین علمائے دیوبند اللہ رب العزت کے چند مخلص اہلگوں کی ایک جماعت کا نام ہے۔ ان کے دل میں دین کا درد تھا۔ انہوں نے ایسا کام یا کہ ان کا فیض اس وقت پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔

محترم جماعت! اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی مہربانی سے اس عاجز کو دین کی نسبت سے دنیا کے چالیس سے زیادہ ملکوں میں سفر کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ امریکہ بھی دیکھا، افریقہ بھی دیکھا، ملائیشیا کے جنگلات بھی دیکھے اور رشیا میں سائبیریا کا علاقہ بھی دیکھا، وہ جگہیں بھی دیکھیں جہاں پر چھ مہینے دن اور چھ مہینے رات ہوتی ہے، اور وہ جگہ بھی دیکھی جس کو End of the world (دنیا کا آخری کنارہ) کہا جاتا ہے۔ وہاں پر حکومت نے لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ یہ دنیا کا آخری کنارہ ہے۔ وہ اس طرح کہ سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہاں سمندر کے کنارے پر دنیا کے لاکھوں ثورست (سیاح) موجود ہوتے ہیں۔ وہاں سورج غروب ہونے کے لئے آتا ہے تو غروب ہوتے ہوتے غروب نہیں ہوتا بلکہ پھر طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لاکھوں سیاح یہ

ناظارہ وہاں پر دیکھتے ہیں اس لئے اس جگہ کو دنیا کا آخوندی کنارہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو اس جگہ پر بھی پہنچنے کی سعادت عطا فرمائی لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ عاجز جہاں بھی گیا، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، پہاڑ تھے یا میدان، جنگل تھے یا صحراء، جہاں بھی گیا اس عاجز نے علاج دیوبند کا کوئی نہ کوئی روحانی فرزند وہاں دین کا کام کرتے دیکھا۔

”علم و ہنر کا گھوارہ تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے

ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے ہر سرو یہاں مینارہ ہے

عبد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل

آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل۔

کہسار یہاں دب جاتے ہیں طوفان یہاں رک جاتے ہیں

اس کا خ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں

## فیض کے چلنے کی ایک اہم شرط

دین کا کام ہو ہی تب سکتا ہے جب دل میں خلوص ہو۔ فلوس کی نیت سے کریں گے تو فیض نہیں چلتے گا۔ اللہ کی رضاۓ لئے کریں گے تو اللہ تعالیٰ فیض چاہدیں کے۔ فیض کا چتنا برکت کا دوسرا نام ہے۔ ہر بندے کا فیض بھی نہیں پاتا۔ صرف اسی کا فیض چلتا ہے جس کی اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت ہو باتی ہے۔

## شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسنؒ کا فیض

شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسنؒ اکابرین ملائے دیوبند کے ایک فرد فرید

تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو دین کا درد دیا تھا۔ انہوں نے دین کا کام کیا اور اس کے لئے قربانیاں دیں۔ اللہ رب العزت نے ان قربانیوں کی وجہ سے ان کو ایسے شاگرد دیئے جنہوں نے آگے دین کا خوب کام کیا۔ آپ شیخ الہند کا کوئی بھی ایسا شاگرد نہیں دکھا سکتے جس نے اپنی زندگی میں دین کا کام نہ کیا ہو۔ ان کے شاگردوں میں سے حضرت سید حسین احمد مدینی، مولانا انور شاہ کشمیری، اور حضرت محمد اشرف علی تھانوی زیادہ مشہور ہوئے۔ شیخ الہند کے شاگردوں میں سے ایک غیر معروف شخصیت کا ذکر ہے آج آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ تاکہ آپ کو کچھ نی باقاعدہ معلوم ہوں۔

### حضرت مولانا غلام رسول پونڈی کا مقام

ملٹان سے آگے شجاع آباد کے علاقہ میں ایک بزرگ گزرے ہیں۔ جن کا نام حضرت مولانا غلام رسول پونڈی تھا۔ پونڈہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے وہ اس گاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے شیخ الہند سے دورہ حدیث کیا۔ ان کو شیخ الہند سے ایسی والہانہ محبت تھی کہ حضرت جس راستے سے دارالحدیث میں آیا کرتے تھے یہ رات کو چھپ کر اس راستے کو اپنے عمامہ کے ساتھ جھاڑ دیا کرتے تھے۔ وہ اس لئے چھپتے تھے تاکہ دوسرا طلباء ان کو دیکھنے لیں۔

ایک مرتبہ شیخ الہند نے ان کو عمامے سے جھاڑ دیتے ہوئے دیکھ لیا۔ انہوں نے پوچھا، غلام رسول! یہ کیا کر رہے ہو؟ بالآخر بتانا پڑا۔ شیخ الہند نے خوش ہو کر ان کو دعا دے دی۔ بس استاد کی وعاشاگرد کے کام آگئی۔

ایک ہوتا ہے دعائیں کروانا اور ایک ہوتا ہے دعائیں لینا۔ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ دعائیں کروانا تو یہ ہوا کہ بیٹا کہے، امی! میرے لئے دعا کر

دیں، ابو! میرے لئے دعا کر دیں، حضرت! میرے لئے دعا کر دیں۔ اور دعا لینا یہ ہوتا ہے کہ انسان اتنا نیک اور مودب بنے کہ اس کی نیکی کو دیکھ کر اس کے بڑوں کے دل سے دعا میں نکل رہی ہوں۔ آج کے دور میں دعا میں کروانے والے بڑے ہوتے ہیں مگر دعا میں لینے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔

حدیث پاک میں آیا ہے کہ تین صحابہ کرام تھے۔ تینوں کی اٹھتی جوانیاں تھیں اور تینوں کا نام عبد اللہ تھا۔ یہ ایسے عباد اللہ تھے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت میں علم حاصل کرنے کے لئے اور آپ کی خدمت کے لئے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے شوق اور جذبے کو دیکھ کر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دل اتنا خوش ہوتا کہ آپ ﷺ تجدید کی نماز میں ان کا نام لے لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا میں فرماتے تھے۔ چنانچہ نبی علیہم السَّلَامُ کی دعا میں ایسی قبول ہوئیں کہ ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر امتیازی شان عطا کی۔ ان میں سے حضرت عبد اللہ ابن مسعود رض امام الفقہاء بنے، حضرت عبد اللہ ابن عباس رض امام المفسرین بنے اور حضرت عبد اللہ ابن عمر رض امام الحدیث بنے بنے۔

حضرت مولانا غلام رسول پونتویؒ نے بھی شیخ البندؒ سے دعائی اور ان کا فیض چلا۔ شجاع آباد سے تیس کلو میٹر کے فاصلے پر ان کا گاؤں پونڈہ تھا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ”شرح ماۓ عامل پونڈی“ ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ علماء کی نظر سے وہ کتاب گزری ہو۔ طلباء شجاع آباد شہر میں بس سے اترتے اور تیس کلو میٹر پیدل چل کر اپنا بستر اور سامان اپنے سروں پر رکھ کر پونڈہ جایا کرتے تھے۔ ان کے پاس تقریباً ساڑھے تین سو شاگرد ہوتے تھے۔ ان کا بھی

خوب فیض پھیلا۔

ان کے دو شاگردوں کا نام عبد اللہ تھا۔ ایک عبد اللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حافظ الحدیث تھے اور دوسرے حضرت مولانا عبد اللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو شجاع آباد کے شیخ تھے۔ وہ ہزاروں علماء کے شیخ تھے۔ ان کا درس قرآن بہت معروف تھا۔

حضرت مولانا غلام رسول پونتویؒ ایک مرتبہ خیر المدارس کے سالانہ جلسہ میں تشریف لائے۔ اس وقت پاکستان کے بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ اس وقت حضرت مولانا خیر محمد جالندھریؒ نے ان کو شمس النحوۃ کے لقب سے پکارا۔ اتنے علماء کی محفل میں جن کو شمس النحوۃ کہا جائے ان کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر پوری دنیا سے شرح جامی کو ضبط کر لیا جائے اور کوئی بندہ میرے پاس آ کر کہے کہ حضرت! مجھے شرح جامی کی ضرورت ہے تو میں شرح جامی کو متن اور اس کے حاشیہ کے ساتھ دوبارہ لکھوں گا۔

## حضرت خواجہ عبد اللہ بہلویؒ کا فیضان صحبت

اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ عبد اللہ بہلویؒ کا فیض علماء میں بہت زیادہ جاری فرمایا۔ وہ ر مقان المبارک میں دورہ تفسیر کر دیا کرتے تھے۔ تمیں تمیں سو علماء ان کے پاس رہ کر تربیت پاتے تھے اور دورہ تفسیر کیا کرتے تھے۔ ان کے فیض صحبت کا یہ عالم تھا کہ ایک عالم ان سے بیعت تھے وہ خود کہنے لگے کہ میں حضرت کو ملنے کے لئے گیا۔ میں نے تحوزی دیر کے بعد اجازت مانگی۔ حضرت فرمائے لگے کہ اگرچہ آپ درس تدریس میں مشغول ہیں، پھر بھی کچھ وقت آپ میرے پاس بھی رہیں۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ جب میرے شیخ

رہنے کے لئے فرمار ہے ہیں تو چلو میں رہ لیتا ہوں۔ چنانچہ میں نے کہا، حضرت! میں تین دن رہتا ہوں۔ شیخ فرمانے لگے، بہت اچھا۔ میں تین دن ان کی صحبت میں رہا، اس کی برکت سے میرے اوپر الگی کیفیت طاری ہوئی کہ جب واپس گھر کو لوٹا تو تین سال میں ایک بار بھی تہجد قضاۓ ہوئی۔ حالانکہ اس سے پہلے میں نے تین دن متواتر کبھی تہجد نہیں پڑھی تھی۔

## محنت کی چکلی

دین کے لئے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ چکلی ہمیں پڑتی ہے۔ اس کو پیسے بغیر کسی کا فیض جاری نہیں ہوا۔ آپ کسی بھی بزرگ کے حالات زندگی پڑھ کر دیکھ لجھے جتنا مجاہدہ زیادہ کیا ہوگا اللہ رب العزت نے اتنا ہی فیض زیادہ جاری کیا ہوگا۔ مثل مشہور ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی عیش ہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس راہ میں جتنا مجاہدہ کریں گے اپنی آسائش اور آرام کو دین کے تقاضوں پر قربان کریں گے اتنے ہی اس کے ثرات ملیں گے۔

رب لئی تج کرنا پیندا ہے آسائش نوں آرام نوں  
کنڈیاں تے چلنا پیندا ہے گلبدناؤں توں گلفماں نوں  
اللہ کے دین کے لئے آسائش و آرام کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اور بڑے بڑے ناز نیوں کو بھی کانٹوں پر چلانا پڑتا ہے۔

## احسان خداوندی

آپ حضرات جوان پہاڑوں کے اندر علم کا چراغ جلانے بیٹھے ہیں یہ اللہ رب العزت کی بڑی مہربانی ہے۔ بلکہ یہ عاجز تو کہے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے

لاؤ لے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ثمَّ اور ثنا الکتبُ الَّذِينَ اضطَهَفْنَا مِنْ عبادَنَا (فاطر ۳۲) پھر ہم نے کتاب کا وارث بنادیا اپنے بندوں میں سے ان کو جو ہمارے پختے ہوئے تھے، جو ہمارے پسندیدہ تھے، جو ہمارے لاؤ لے تھے۔ محترم علماء کرام اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں بلکہ یہ کمال والے کا کمال ہے کہ اس نے ہم جیسے لوگوں کو یہ کام عطا فرمادیا۔

منت منه کہ خدمت سلطان ہمی کنی  
 منت ازو شناس کہ در خدمت گذاشت  
 اے مخاطب! بادشاہ پا احسان نہ جتنا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے۔  
 ارے! اس کی خدمت کرنے والے لاکھوں ہیں، یہ اس کا تجھ پر احسان ہے کہ  
 اس نے تجھے اپنی خدمت کے لئے قبول فرمایا ہے۔ اب یہ ہمارے ذمے ہے  
 کہ ہم احسان شناسی کا مظاہرہ کریں۔ اور اپنی ذمہ داریوں کو کما حقہ ادا کرنے  
 کی کوشش کریں۔

### خر کے فصلے

آپ دین کے کام کو اخلاص کے ساتھ کریں۔ ایک ایک بچے پر محنت  
 کریں، دن میں اسے پڑھائیں اور رات کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ نبی علیہ  
 الصلوٰۃ والسلام کی یہی سنت ہے۔ اگر اس طرح کریں گے تو اللہ تعالیٰ خر کے  
 فیصلے فرمادیں گے۔ یہی ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے۔ اور اسی طریقہ سے ان  
 کو فیض آگے پھیلا ہے۔

## شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسنؒ کی استقامت

حضرت شیخ الہندؒ کو دین کے لئے بڑی قربانیاں دینی پڑیں۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب ان کی وفات حکیم محمد اجمل کی کوٹھی پر ہوئی، غسل دینے والے نے دیکھا کہ ان کی پیٹھ پر زخمون کے بڑے بڑے نشان ہیں۔ اس نے رشتہ داروں سے پوچھا۔ انہوں نے گھروالوں سے پوچھا، لیکن کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ سب حیران تھے اہل خانہ سے بھی اس بات کو چھپائے رکھا، آخر یہ کیا معاملہ ہے۔

حضرت مولانا حسین احمد مدینیؒ اس وقت ملکتہ گئے ہوئے تھے۔ ان کو شیخ الہندؒ کی وفات کا پتہ چلا تو وہاں سے جنازہ میں شرکت کے لئے آئے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ حضرت مدینیؒ کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ فرمائے گئے، یہ ایک راز تھا اور حضرت نے منع فرمادیا تھا کہ میری زندگی میں تم نے کسی کو نہیں بتانا، اس لئے یہ امانت تھی اور میں بتا نہیں سکتا تھا، اب تو حضرت وفات پا گئے ہیں لہذا اب تو میں بتا سکتا ہوں۔ وہ فرمائے گئے کہ جب ہم مالٹا میں قید تھے، اس وقت حضرتؒ کو اتنی سزا دی جاتی کہ جسم پر زخم ہو جاتے تھے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ فرنگی انگارے بچھادیتے اور حضرت کو اوپر لٹا دیتے تھے۔ جیل کے حکام کہتے کہ محمود! صرف اتنا کہہ دو کہ میں فرنگیوں کا مقابلہ نہیں ہوں۔ آپ کو ہم اتنا کہنے پر چھوڑ دیں گے۔ مگر حضرت فرماتے کہ نہیں، میں یہ القا نہیں کہہ سکتا۔ وہ ان کو بہت زیادہ تکلیف دیتے تھے۔ حضرت جب اپنی جگہ پر رات کو سونے کے لئے آتے تو سو بھی نہیں سکتے تھے۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے بھی تکلیف اور ادھر سے بھی

اذیتیں۔ ہم لوگ حضرت کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتے۔ ہم نے ایک دن روکر کہا، حضرت! آخر امام محمدؐ نے ”کتاب الحیل“، لکھی ہے لہذا کہ نہ ایسا حیلہ ہے کہ آپ ان کی سزا سے نجیگی میں۔ حضرت نے فرمایا، نہیں۔ اے۔ ن۔ پھر حضرت کو سزا دی گئی۔ جب کئی دن متواتر یہ سزا ملتی رہی تو ایک دن ایک فرنگی کھڑا ہو کر کہنے لگا، تجھے ہے کیا، تو پہ کیوں نہیں کہنا چاہتا کہ میں فرنگیوں کا مخالف نہیں ہوں؟ اس وقت حضرتؐ نے فرمایا کہ میں اس لئے نہیں کہنا چاہتا کہ میں اللہ کے دفتر سے نام کٹوا کر تمہارے دفتر میں نام نہیں لکھوانا چاہتا۔

حضرت مدینیؐ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرتؐ آئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کو اذیت ناک سزا دی گئی ہے۔ ہم حضرت کے ساتھ تین چار شاگرد تھے۔ ہم نے مل کر عرض کیا، حضرت اکچھہ مہربانی فرمائیں۔ اب جب حضرت نے دیکھا کہ مل کر بات کی تو ان کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ فرمانے لگے، حسین احمد! تم مجھے کیا سمجھتے ہو، میں روحانی پیٹا ہوں حضرت پلالؑ کا، میں روحانی پیٹا ہوں حضرت خبیثؓ کا، میں روحانی پیٹا ہوں حضرت سمیہؓ، میں روحانی پیٹا ہوں امام مالکؓ کا جنہیں منہ پر سیاہی مل کر مدینہ کے اندر پھرایا گیا، میں روحانی پیٹا ہوں امام ابوحنیفہؓ کا کہ جن کی لاش جیل ہے ہاہر لکلی، میں روحانی پیٹا ہوں امام احمد بن حبیلؓ کا کہ جن کو اتنے کوڑے مارے گئے کہ اگر ہاتھی کو بھی مارے جاتے تو وہ بھی بللا اٹھتا، میں روحانی پیٹا ہوں مجدد الف ثانیؓ کا کہ جن کو دوسال کے لئے گومالیار کے قلعے میں قید رکھا گیا تھا، میں روحانی پیٹا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلویؓ کا کہ جن کے ہاتھوں کوکلائیوں کے قریب سے توڑ کر بیکار بنا دیا گیا تھا، حسین احمد! کیا میں ان فرنگیوں کے سامنے نکست تسلیم کرلوں نہیں، یہ میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہیں مگر دل سے

ایمان نہیں نکال سکتے۔ سبحان اللہ، جب ایک انتقامت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فیض بھی جاری فرمادیتے ہیں۔

اللہ رب العزت ہمیں بھی انتقامت اور اخلاص کے ساتھ دین کا کام  
کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین

و آخر عونا ان الحمد لله رب العلمين



علماء اور علماء  
کی شان

اللہ رب العزت کے ہاں اہل علم کی بڑی شان ہے اسی لئے  
حدیث پاک میں فرمایا گیا العلم نور علم ایک روشنی ہے۔ اور یہ  
بات ذہن میں رکھئے کہ علم کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ  
فضل ہوتی ہے کیونکہ سورج تو کچھ حصے کیلئے چمکتا ہے پھر دوبارہ  
جاتا ہے صرف دن کو روشنی دیتا ہے رات کو روشنی نہیں دیتا لیکن علم کا  
سورج وہ سورج ہے جو دن کو بھی چمکتا ہے اور رات کو بھی چمکتا ہے  
یہی وجہ ہے کہ اہل علم حضرات کی محفلیں راتوں کو بھی گلی رہتی ہیں۔

## علم اور علماء کی شان

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰی وَسَلَّمَ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَافَی امَا بَعْدُ!  
 اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرُّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝  
 يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِینَ امْنَوْا مِنْکُمْ وَالَّذِینَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَتٍ . وَقَالَ  
 اللّٰهُ تَعَالٰی فِي مَقَامِ اخْرِ: وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ بِمَا عَمِلُوا .  
 سَبِّحْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصْفُونَ وَسَلَّمَ عَلٰی الْمُرْسَلِينَ  
 وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۝

### قدرت کا شاہکار

انسان اللہ رب العزت کی قدرت کا شاہکار ہے یہ اس دنیا میں اللہ رب  
 العزت کا نائب، اس کا خلیفہ اور اس کی صفات کا مظہر اتم ہے۔ اللہ رب  
 العزت نے یہ ساری کائنات انسان کیلئے بنائی جبکہ انسان کو اللہ رب العزت  
 نے اپنے لئے بنایا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ”ان الدنیا خلقت  
 لكم وانتم خلقتם للآخرة“ کہ یہ دنیا تمہارے لئے پیدا کی گئی ہے اور تمہیں  
 آخرت کیلئے پیدا کیا گیا ہے۔ کسی شاعر نے اسی مضمون کو درج ذیل الفاظ میں  
 بیان کیا ہے:

کھیتیاں سربز ہیں تیری غذا کے واسطے  
 چاند سورج اور ستارے ہیں خیا ہکے واسطے  
 بحر و بر میش و قمر ماہ و شما کے واسطے  
 یہ جہاں تے لئے ہے تو خدا کے واسطے

تو یہ سارا جہان اللہ رب العزت نے ہمارے لئے پیدا کیا اور ہمیں اس نے اپنی بندگی کیلئے پیدا کیا۔

## مقصد زندگی

انسان کو اس دنیا میں آخرت کی تیاری کیلئے بھیجا گیا ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو اپنے بندوں کو عالم ارواح میں ہی اپنا ولی بنادیتا۔ لیکن اس پروردگار نے حصول ولایت کے لئے انسان کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم یہاں پر محنت کریں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکیں۔

## ولایت کی درجات

ولایت کے درجے میں ایک ولایت عامہ ہے۔ جس بندے نے بھی کلمہ پڑھا اس کو ولایت عامہ کا رتبہ مل گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا (اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا)۔ ولایت کا یہ درجہ ہر کلمہ کو کو نصیب ہے اور ایک ولایت خاصہ ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے انسان کو تقویٰ اور پرہیزگاری کو لختیار کرنا پڑتا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا۔

أَلَا إِنَّ أُولَئِءِ اللَّهَ لَا يَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ

(جان لوکہ اللہ رب العزت کے دوستوں پر نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے

اور نہ ہی کوئی حزن ہوتا ہے) (یونس: ۶۲)

خوف باہر کے ذر کو کہتے ہیں اور حزن اندر کے غم کو کہتے ہیں یعنی نہ ان کو کوئی باہر کا ذر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اندر کا غم ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہیں

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (یونس: ۶۳)

(جو ایمان لائے اور انہوں نے تقویٰ کو اختیار کیا)

لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ

(ان کے لئے دنیا اور آخرت میں بشارتیں اور مبارکیں ہیں)

## علم و عمل کی سعادتیں

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان تقویٰ کیسے اختیار کرے؟ اس کے لئے پہلا قدم علم کا حاصل کرنا ہے اور دوسرا قدم اس علم پر عمل کرنا ہے۔ یہ دونوں بڑی نعمتیں ہیں۔ دینا جہاں کی سعادتوں کی کنجیاں علم و عمل کے اندر ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں ان لوگوں کا ذکر ہے کیا گیا جن پر اللہ رب العزت نے خاص رحمتیں نازل کیں وہاں پر یہ بھی فرمادیا کہ یہ وہ لوگ ہیں

مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصَّدِيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ (النَّاسَ، ۶۹)

(جو نبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں)

ان چار حضرات میں سے پہلے دو حضرات کی نسبت علم کے ساتھ زیادہ پکی ہے کیونکہ انہیاً کرام اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام لے کر آئے اور صدیقین وہ ہیں جنہوں نے اس کی تصدیق کی۔ ان پر علم کی نسبت غالب ہے اور شہداء اور صالحین کی نسبت عمل کے ساتھ زیادہ پکی ہے اس آیت سے یہی معلوم ہوا کہ جہاں کی سعادتیں علم و عمل کے اندر موجود ہیں۔

## حصول علم کا فطری جذبہ

علم حاصل کرنے کا جذبہ ہر انسان کے اندر فطرتاً موجود ہے۔ جس طرح ہر انسان کو فطرتاً بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے اور نیند آتی ہے کیونکہ یہ اس کے

بدن کی ضرورتیں ہیں۔ اسی طرح علم حاصل کرنے کا جذبہ بھی ہر انسان کے اندر فطرتیار کہ دیا گیا ہے۔ اس کی مثال یوں دیکھئے کہ اگر آپ سفر کر رہے ہوں اور راستے میں کوئی مجمع نظر آئے تو مجمع کو دیکھ کر ہر آدمی پوچھے گا، بھی! یہاں کیا ہوا ہے؟ دیکھئے یہ جو دل میں اک جذبہ اٹھا کہ یہاں کیا ہوا ہے یہ اصل میں علم حاصل کرنے کا جذبہ ہے۔ اسی طرح کئی لوگوں کو اخبار پڑھنے کا شوق ہوتا ہے لہذا صبح اٹھتے ہی وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، سناؤ بھی! کوئی نئی خبر ہے؟ یہ نئی خبر جانے کا جذبہ دراصل علم حاصل کرنے کا جذبہ ہے۔

## اعضاء کی تقسیم

انسان کے جسم میں مختلف اعضاء ہیں ان اعضاء کی تقسیم تین طرح سے ہے  
(۱) کچھ اعضا نے علم ہیں جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے جیسے آنکھ، کان، دماغ یہ سب ذرائع علم ہیں۔

(۲) کچھ اعضا نے عمل ہوتے ہیں جیسے ہاتھ، پاؤں۔ ہاتھ اور پاؤں نے دماغ کی ہدایات کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے۔

(۳) کچھ اعضا نے مال ہوتے ہیں وہ کچھ چیزوں کے خزینے ہوتے ہیں جیسے انسان کا دل، پھیپھڑے اور معدہ وغیرہ

التدرب العزت کی تقسیم دیکھئے کہ ہاتھ اور پاؤں جن کو مزدور قسم کے اعضاء کہا جاسکتا ہے ان کو سب سے نیچے رکھا۔ جو اعضا نے مال تھے ان کو درمیان میں رکھا اور اعضا نے علم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اوپر رکھا۔ یعنی انسان کے جسم میں علماء کی بستی سب سے اوپر بسائی گئی پھر اہل مال کی اور اس کے بعد اہل محنت کی بستی بسائی گئی۔ گویا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اعضا نے علم کو شرافت بخشی

ہے۔ سو پختے کی بات یہ ہے کہ وہ ذرائع جو علم حاصل کرنے کا سبب بننے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شرافت بخش رہے ہیں تو جو انسان خود عالم بن جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو کیسی شرافت بخشیں گے؟

## طالب علم کی فضیلت

حضرت سفیان ثوریؓ فرمایا کرتے تھے کہ اگر نیت نیت ہو تو طالب علم سے افضل کوئی نہیں ہوتا۔

حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ

من كان في طلب العلم كانت الجنة في طلبه  
(جو انسان علم کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس بندے کی طلب میں ہوتی ہے)

ایک اور حدیث میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا من خروج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع۔ جو شخص علم دین حاصل کرنے کیلئے نکلا وہ واپس آنے تک اللہ کے راستے میں ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مجاہدین اللہ کی راہ میں جہاد کیلئے نکلتے ہیں تو راستے میں ان کو جو بھی مکالیف آتی ہیں اور مشقتیں برداشت کرتا پڑتی ہیں اس کا ان کو اجر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح طالب علم جب گھر سے طلب دین کیلئے نکلتا ہے تو تو واپس آنے تک اس کا ہر ہر لمحہ اللہ کی راہ میں شمار ہوتا ہے۔ اور اسے گھر کے آرام و سکون کو خیر باد کہہ کر جو بھی مجاہدے کرنے پڑتے ہیں اس پر اجر ملے گا۔

## عالم کی شان

اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی عالم بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس نے لئے جنت میں ایک گھر بنادیتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کسی عالم سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے لئے جنت میں شہر آباد کر دیا کرتے ہیں۔ جیسے دنیا میں نوابوں کی اپنی اپنی ریاستیں ہوتی ہیں اسی طرح اللہ رب العزت جنت میں علماء کا اکرام فرماتے ہوئے ان کی بستیاں آباد کریں گے۔

اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے والوں کو بڑی شان بخشتے ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے تھے کہ اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ ڈنگروں اور جانوروں جیسی زندگی گزار کرتے کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ العلم نور علم ایک نور ہے۔ گویا اللہ کے محبوب مسیح علیہ السلام نے العلم نور ارشاد فرمائے جہالت سے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے حتیٰ کہ جب پہلی وحی اتری تو اس میں پہلا لفظ اقراء تھا اس کا مطلب ہے ”پڑھ“ یعنی اس امت کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو پہلا پیغام ملا اس میں پڑھنے کی تلقین تھی۔ پھر فرمایا اقراء وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (العلق: آیت ۳)

(آپ پڑھئے اللہ رب العزت آپ کو عزت میں بخشنے والا ہے)  
اس پیغام خداوندی سے علم کی اہمیت سامنے آتی ہے

## عصری تعلیم اور دینی تعلیم

لہذا ہم میں سے ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ علم دین حاصل کرے۔ یاد

کچھیں کہ ایک عصری علم ہے جو سکون اور کا الجوں میں حاصل یا جاتا ہے۔ وہ علم دنیا میں اچھی زندگی کے لئے انسان کی ضرورت ہے۔ اس سے انسان کو کام کرنے کے لئے اچھا شعبہ مل جاتا ہے، اچھا عہدہ مل سلتا ہے، انسان بزنس کر سکتا ہے اور دنیا کی مشکلات حل کرنے کے لئے۔ اس کو سکتا ہے۔ پس عصری تعلیم انسان کی ضرورت ہے۔ اس کے بر عکس عدم دین انسان سے مقصد کے درجے میں ہے۔ یہ مقصد زندگی ہے کہ ہم علم حاصل کریں کیونکہ علم سے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ فارسی میں کہتے ہے۔

بے علم نتوان خدا شناخت

(کہ بے علم آدمی اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکت)

چونکہ علم دین مقصد زندگی ہے اس لئے اس کی عظمت بہت زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں وحشم دیائیں

طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة

(علم کا طلب کرتا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے)

پھر اس کے حصول کے لئے عمر کی بھی کوئی قید نہیں لگائی گئی۔ یہ بھی نہیں کہا گیا کہ تم لا رکیں میں علم حاصل کرو، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ جوانی میں علم حاصل کرو۔ نہیں، بلکہ فرمایا کہ اطلبوا العلم من المهد الى اللحد نم علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان پوری زندگی طالب علم بن کر رہے ہے۔ اس لئے ہم نے پوری زندگی علم حاصل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔

## علم پر عمل

علم اور عمل سے انسان کو اللہ رب العزت کے ہاں درجات ملتے ہیں۔ شروع میں قرآن پاک کی دو آیتیں تلاوت کی گئیں۔ پہلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اہل علم کو درجات میں گے اور دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اہل عمل کو درجات میں گے۔ یعنی علم اہل ہی وہ نسبتیں ہیں جن کی وجہ سے بندے کو درجات میں گے۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل علم کو درجات عطا کریں گے دوسری میں فرمایا کہ لوگ چنان عمل کریں گے اتنے ہی ان کے درجے پر چین گے۔ حقیقت میں یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کے درجات بڑھتے ہیں اور انسان اللہ تعالیٰ کا مترب بتتا ہے اس لئے ہمیں علم بھی حاصل کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ علم کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا اور عمل کے بغیر علم بے کار ہے۔

## دنیا کا سورج اور علم کا سورج

اللہ رب العزت کے ہاں اہل علم کی بڑی شان ہے اسی لئے حدیث پاک میں فرمایا گیا العلم نور علم ایک روشنی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ علم کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ افضل ہوتی ہے کیونکہ سورج تو کچھ حصے کیلئے چلتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے صرف دن کو روشنی دیتا ہے رات کو روشنی نہیں دیتا لیکن علم کا سورج دن کو بھی چلتا ہے اور رات کو بھی چلتا ہے آپ نے دیکھا ہو گا کہ اہل علم حضرات کی محفوظیں راتوں کو بھی الگتی رہتی ہیں۔

حضرت مولانا حسین احمد مدفیٰؒ جن دنوں تحریک آزادی کیلئے کوششیں کر

رہے تھے ان دونوں آپؐ کبھی رات کے ایک بجے جلس سے فارغ ہو کر واپس دارالعلوم آتے اور کبھی دو بجے آتے۔ اس لئے طلباء نے دارالعلوم دیوبند کے دریان کو کہا ہوا تھا کہ جب بھی حضرت تشریف لاتے ہیں تو وہ پھر کر کے تہجد کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں جیسے ہی وہ وضو کر کے نماز پڑھیں آپؐ بھی جنمادینا۔

جب حضرت سلام پھیرتے تو حدیث کے طلباء اپنی کتابیں لے کر حضرت کے بیچے بیٹھے چکے ہوتے رات کے دو بجے درس حدیث ہوتا تھا اسی وقت کے طلباء میں علم حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا۔

کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا حسین احمد مدھی کے چہرے پر ایسا نور ہوتا تھا کہ جب حضرت ادایین یا تہجد کی نماز پڑھتے تو طلباء سبھوں پاؤ بیواروں کے بیچے سے حضرت کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے۔ یوں اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پر الوارات کی پارش بر سایا کرتے تھے۔

## عالم کی عابد پر فضیلت

حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ فضل العالم علی العابد کفضلى علی ادنا کم عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جو تم میں سے کسی عام آدمی پر مجھے کو حاصل ہوئے بھی ارشاد فرمایا کہ مجلس فقیہ خیر من عبادة ستین سنۃ فقیہ کی ایک مجلس اختیار کرنا سائنس سال کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ علم کا ایک باب سیکھنا ہزار رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے مثلاً حیثم کرنے کا طریقہ سیکھنا علم کا ایک باب ہے۔ یہ سیکھنے پر بھی ہزار رکعت نفل پڑھنے سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے۔

## جنت میں بھی علماء کی سرداری

یہ بات یاد رہیں کہ دنیا اور آخرت میں سرداری اہل علم ہی کی ہوگی۔ کنز العمال کی چوتھی جلد میں حضرت جابرؓ سے ایک وایت ہے کہ جب لوگ جنت میں جائیں کے اور ان کو جنت میں مزے اڑاتے ہوئے بڑا حرصہ لزار جائے گا تو اللہ رب العزت پوچھیں گے، اے میرے بندو! کیا اب بھی تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہیں کے، اے اللہ! ہر چیز تو موجود ہے اور ہم مزے کی زندگی لزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اچھا، تم اپنے علماء سے پوچھو۔ چنانچہ جستی لوگ علماء کی طرف رجوع کریں گے اور ہمیں گے کہ پروردگار نے یہ فرمایا ہے، اب آپ بتائیے۔ حدا، فرمائیں گے کے، باں، پروردگار نے وعدہ فرمایا تھا ولدینا مونید کہ تمہیں مزید بھی عطا کیا جائے گا، یعنی اپنا دیدار اور مشاہدہ نصیب کیا جائے گا، ابھی تک ہمیں جنت کی نعمتیں تو ملی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ لہذا علماء کا جواب سن کر جستی فریاد کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔

## علماء کی نیند بھی عبادت ہے

ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا، نوم العلماء عبادة کہ علماء کی نیند بھی عبادت ہے۔ یہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ علماء کی نیند بھی عبادت ہے مگر ایک مثال سے اس کو سمجھنا آسان ہوگا۔ اگر آپ کسی لکڑی کے کار گیکرو کام کرنے کیلئے گھر لاتے ہیں وہ کار گیکر لکڑی کا ثنا ہے اور کام شروع کر دیتا ہے اس دوران اس کی آری کند ہو جاتی ہے تو وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر آری کو تیز کر لیتا ہے۔

وہ جتنی دیر اپنے اوزار کو ثہیک کرنے میں لگا رہا ہے اتنی دیر بھی اس کی اجرت میں شامل کی جائے گی۔ دنیا کا کوئی بندہ بھی اس کی اجرت نہیں کاتا..... نس طرح آج دنیا کسی مزدور کو اس کے اوزار درست کرنے کے وقت انہی مزدوری دیتی ہے اسی طرح اہل علم جب کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت کی بھی مزدوری دیتے ہیں اور جب ان کے جسم تحکم جاتے ہیں اور وہ آرام کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس آرام کے وقت کو بھی مزدوری میں شامل فرمایتے ہیں۔ سبحان اللہ جا گئے کی حالت میں ان کو اجر تو مل رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی کیسی مہربانی ہوتی ہے کہ ان کو سوچانے پر بھی اجر مل رہا ہوتا ہے۔ گویا ان کا سونا بھی ”سونا“ بن جاتا ہے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ علماء کرام کو جب سونے پر یہ اجر مل رہا ہوتا ہے تو ان کو جا گئے پر کیا اجر مل رہا ہو گا۔

## عالم کی شہید پر فضیلت

ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن علماء کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ فضیلت پائے گی۔

Ink of Scholars is precious than the blood of mortars

یہ بات بڑی عجیب نظر آتی ہے کہ ادھر تو شہید کا خون ہے اور ادھر علماء کی سیاہی ہے، یہ بات ظاہر میں تو سمجھنا مشکل ہے مگر حقیقت میں اسکیں بہت حکمتیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ عالم کو شہید پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ عالم کی مثال ایسے ہے جیسے بادشاہ کا بیٹا ہو، اور شہید کی مثال ایسی ہے جیسے بادشاہ کا فوبی ہو۔ تو یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ شہزادے کو فوجی پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ علماء

انبیاء، کے وارث ہیں اور شہدا انبیاء کے سپاہی اور خادم ہیں جو دین کی حفاظت کے لئے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ وارث کو خادم پر فضیلت ہوا کرتی ہے۔

علماء، اسکی دوسری حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ شہید جب شہید ہوتا ہے تو وہ اپنے خون سے زمین کو زینت بخش جاتا ہے، لیکن عالم جب علم کو پھیلاتا ہے تو اس کے علم سے انسان کو زینت نصیب ہوتی ہے کیونکہ اگر انسانوں کو علم نہ ملتا تو وہ پکے جانور ہوتے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے۔ گویا شہید جب شہید ہوتا ہے تو وہ اپنے خون سے زمین کو زینت بخش جاتا ہے اور جب عالم دنیا سے جاتا ہے تو اپنے علم کی وجہ سے انسانوں کو زینت بخش جاتا ہے۔

تیسرا حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ شہید جب شہید ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ کسی سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ گویا وہ لڑنے کی وجہ سے اپنے مقابل کے قتل کے درپے ہوتا ہے کہ کافر کو واصل جہنم کر دوں۔ لیکن کافران پر ایک ایسا کامیاب وارکرتا ہے کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ لیکن عالم کا معاملہ اور ہے عالم خود بھی زندہ ہوتا ہے اور جس کو علم دیتا ہے اس کو بھی زندہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اللہ اکابر موتی انسانوں کی مشال مردوں کی ہے لیکن اہل العلم احیاء اہل علم زندہ ہوتے ہیں۔

علم کو شہید پر فضیلت حاصل ہونے کی چوتحی حکمت یہ بھی ہے کہ شہید جب شہید ہوتا ہے تو خود تو جنت میں چلا جاتا ہے لیکن جو اسے شہید کرتا ہے اس سے جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے لیکن عالم کا معاملہ کچھ اور ہے عالم جو علم پڑھاتا ہے اس علم کے صدقے وہ خود بھی جنت میں جائے گا اور جس شاگرد کو وہ علم

پڑھاتا ہے وہ اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے روزِ محشر ایک عالم اور شہید پل صراط کے اوپر سے گزرنے لگیں گے۔ اس دوران شہید سے کہا جائیگا کہ ادخلو الجنۃ کہ جنت میں داخل ہو جا۔ تیراً گھر تیرے انتظار میں ہے لیکن جب عالم گزرنے لگے گا تو اس سے کہا جائیگا، قف ههنا و اشفع لمن شست تو ادھر کھڑا ہو جا، تو شفاعت کر جس کی تو چاہتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں فقام مقام الانبیاء وہ اس وقت انبیاء کے مقام پر کھڑا ہو گا۔ جس طرح انبیاء نے اللہ کے بندوں کی شفاعت کی ہو گی عالم با عمل بھی اسی طرح اللہ کے بندوں کی شفاعت کرے گا۔

## علمی سوال کی فضیلت

اگر کسی سائل نے مجبور ہو کر روٹی کا سوال کیا اور گھر میں خاتون خانہ نے کوئی روٹی بنائی ہوئی تھی اس نے اپنی خادمہ یا کسی بچے کو روٹی دی کہ جا کر اس سائل کو دے دو۔ تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ روٹی صدقہ کرنے پر اللہ تعالیٰ تمن بندوں کی مغفرت فرمادیتے ہیں۔ سب سے پہلا وہ شخص جس نے محنت کی تھی اور اس کے پیسے سے آتا آیا تھا۔ دوسرا وہ عورت جس نے اس آٹے سے روٹی بنائی ہوئی تھی اور تیسرا وہ خادمہ یا کوئی بچہ جس نے وہ روٹی سائل تک پہنچائی۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت بھی کتنی بڑی ہے کہ جس نے اجر و ثواب میں ہمارے خادموں کو بھی شامل فرمادیا ہے۔

ایک سائل علم کا سوال پوچھنے والا بھی ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے

شفاء العی السؤال کہ جہالت ایک بیماری ہے اور اس بیماری کی شفاسوال پوچھنے میں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسن السوال نصف العلم اچھا سوال پوچھنا آدھا علم ہے۔ اور قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے کہ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرَ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (النحل: ۲۳)

اگر تم نہیں جانتے تو تم اہل علم سے پوچھو۔ معلوم ہوا کہ شریعت میں علم کا سوال پوچھنا اللہ رب العزت کے ہاں ایک پسندیدہ عمل ہے۔ البتہ سوال برائے سوال نہیں ہونا چاہیئے۔ کئی دفعہ لوگ دوسروں کو تنگ کرنے کیلئے اور نیچا دکھانے کیلئے سوال کرتے ہیں ایسے سوالوں سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تَبَدَّلْ لَكُمْ تَسْؤَلُكُمْ (المائدہ: ۱۰۱) لہذا ہر بات کا سوال نہیں کر دینا چاہئے بلکہ وہ سوال پوچھنا چاہئے جو معیاری اور ثابت ہو اور علم حاصل کرنے کی نیت سے ہو۔

حضرت علیؑ فرمایا کرتے تھے کہ العلم خزانن فسئلوا یا رحمکم اللہ فانہ یوجو فیہ اربعہ تم سوال پوچھا کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے، اس لئے کہ علم کا سوال پوچھنے پر چار قسم کے بندوں کی مغفرت ہوا کرتی ہے۔ السائل والمعلم والسامع والمحب لهم پہلا وہ بندہ جو سوال پوچھنے والا ہوتا ہے، دوسرا وہ شخص جو سوال کا جواب دے رہا ہوتا ہے، تیسرا وہ شخص جو پاس بیٹھا ہو اور ان دونوں کے سوال وجواب سن رہا ہوا اور چوتھے وہ لوگ جو اس سائل اور معلم سے محبت کرنے والے اور ان کا تعاون کرنے والے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اللہ رب العزت محبت کے صدقے ان کی بھی مغفرت فرمادیتے ہیں۔

یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ روٹی کا سوال کرنے پر تین بندوں کی مغفرت کا اور علم کا سوال کرنے پر چار بندوں کی مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہاں روٹی کے سوال کیلئے مغفرت کا وعدہ نہیں کیا گیا کیونکہ اس نے روٹی کی ضرورت بیان کی تھی اس لئے اسے روٹی کی صورت میں سوال کا بدله مل گیا۔ لیکن علم کا سوال کرنے کی شان ہی کچھ اور ہے کہ سب سے پہلے سوال کرنے والے کی مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے، دوسرا وعدہ معلم سے کیا گیا اور تیسرا وہ شخص جو اس محفل میں ان کے پاس بیٹھا ہو... گویا جماعت میں سے سوال تو ایک طالب علم پوچھتا ہے لیکن جو طلباء پاس بیٹھے کر جواب سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر میں شامل فرمائیتے ہیں یہی نہیں کہ اب یہ سنتے والے ہی اجر میں شامل ہیں بلکہ اس جماعت کو منعقد کرنے والے وہ معاونین اور مخیر حضرات جوان کے کھانے پینے اور پڑھنے پڑھانے کا انتظام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محنت رکھنے کے سب ان کی بھی مغفرت فرمادیتے ہیں۔

## حصول علم کیلئے مجاہدہ ضروری ہے

ہمیں چاہئے کہ ہم علم حاصل کرنے میں تن من وھن کی بازی لگادیں۔ یاد رکھئے کہ سچا پاک طالب علم وہ ہوتا ہے جو مدرسے کو اپنا وطن سمجھے اور کتاب کے کاغذ کو اپنا کفن سمجھے۔ دن رات اس کی بھی فکر ہو کہ میں کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔

## اکابر کا علمی اشہار

### امام شافعی کا علمی شغف

امام محمد امام شافعی کے استاد بنے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھے رات امام محمد کے پاس ایک رات گزارنے کا موقع ملا۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عشاء کے بعد چراغ کے سامنے کتاب کھولی اور اس میں سے کچھ پڑھا، پھر چراغ بجھا دیا اور لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، چراغ جلایا، پھر کتاب دیکھی اور پھر لیٹ گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، چراغ جلایا کتاب دیکھی اور پھر لیٹ گئے فرماتے ہیں کہ میں ساری رات جا گا اور میں نے گناہ کہ انہوں نے ایک رات میں سترہ مرتبہ اٹھ کر چراغ جلایا۔ سترہ مرتبہ کا کیا مطلب؟ ..

اگر آٹھ گھنٹے کی رات ہو تو ہر آدھ گھنٹے بعد چراغ جلایا، اب سو چھٹے کہ وہ سوئے کہاں؟ دراصل وہ چراغ بجھاتے اس لئے تھے کہ فالتو تیل نہ جلے اور اسراف (فضول خرچی) نہ ہو جائے پھر جب وہ لیٹتے تھے تو وہ غیند نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ غور و خوض اور تذہب و تکفیر کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب صحیح اٹھے تو میں نے عرض کیا، حضرت! آپ رات کو سترہ مرتبہ اٹھے تھے، آپ کتنا سوئے ہوں گے؟ تو امام محمد نے جواب دیا کہ میں رات سویا نہیں بلکہ میں نے ایک ہزار مسائل کے جواب تلاش کر لئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرا علم حاصل کرنے کا شوق اس طرح ہونا چاہئے کہ انسان کو غیند سے زیادہ علم حاصل کرنے میں مزہ آئے، انسان مطالعہ کرے تو ذوب جائے۔

## امام مسلمؓ کا مطالعہ میں استغراق

امام مسلمؓ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ کوئی حدیث پاک تلاش کر رہے تھے اس وقت انہیں بھوک بھی لگی ہوئی تھی ساتھ ہی کھجوروں کی ایک تھیلی پڑی ہوئی تھی چنانچہ انہوں نے ایک کھجور منہ میں ڈالی اور کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اس وقت مطالعہ کے اندر اس قدر استغراق کی کیفیت تھی کہ پستہ ہی نہ رہا کہ میں کتنی کھجوریں کھا چکا ہوں۔ چنانچہ کھاتے کھاتے جب زیادہ کھالیں تو اس کی وجہ سے یہاں ہو گئے اور بالآخر اللہ تعالیٰ کے حضور پیغمبر گئے۔ ان کو علم میں اتنا استغراق نصیب ہوتا تھا کہ انہیں گردہ پیش کی خبر ہی نہیں ہوتی تھی۔

## حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کا علمی انہما ک

شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی عمر کا آخری زمانہ تھا۔ ایک مرتبہ ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیزؒ نے درس قرآن کے دوران پنی ماں گا ایک طالب علم بھاگ کر ان کے گھر گیا اور کہا کہ شاہ صاحب نے پانی ماں گا تے۔ جب شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے سنا تو انہوں نے شخصی سائنس لی اور تھنے میں، افسوس امیرے خاندان سے علم کا نور انھا لیا گیا۔ یہوی نے کہا، جی آپ اتنی جلدی فیصلہ نہ کریں میں ابھی صورت حال معلوم کر لیتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے گاس میں پانی ڈالا اور اس میں سر کہ ملا دیا۔ سر کہ کڑوا ہوتا ہے اور پینے میں بیب ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ وہ طالب علم جب سر کہ ملا پانی لے گیا تو شاہ عبدالعزیزؒ نے وہ پانی لے کر پی بیا اور درس قرآن دیتے رہے۔ جب درس قرآن سے

فارغ ہو کر گھر آئے تو والدہ نے پوچھا، بینا! تم نے پانی پی لیا تھا؟ عرض کیا، جی پی لیا تھا۔ والدہ نے پوچھا، وہ پانی کیسا تھا؟ عرض کیا، امی! مجھے یہ تو پتہ نہیں کہ میسا تھا۔ اب انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے عرض کیا کہ دیکھنے کے عبد العزیز کو پانی کی اتنی شدید پیاس تھی کہ پانی میں سرکہ کا پتہ نہیں چلا۔ اس ت معلوم ہوا کہ انہوں نے بے ادبی کی وجہ سے نہیں پیا بلکہ اپنی ضرورت کی وجہ سے پیا جو عین جائز تھا ورنہ تو درس بھی نہ دے پاتے، اس لئے ہمارے خاندان سے ابھی ادب رخصت نہیں ہوا۔ یہ سن کر شاہ ولی اللہ نے اطمینان کا سانس لیا اور دعا کی، اے اللہ! میرے خاندان میں حرم و ادب کو ہمیشہ باقی رکھنا۔

## آج کے طلباء کی حالت

آج جب ہمارے طبا، مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کتاب ان کے سامنے ہوتی ہے اور دل دماغ کہیں اور ہوتے ہیں۔ بقول شاعر

کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روٹی ہے  
ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے  
ان کو کتابوں کے ورق میں بھی کسی کا چہرہ نظر آتا ہے جیسے کوئی آدمی راستے  
چلتے ہوئے دوسروں کو سلام کرتا ہے اسی طرح طبا، مطالعہ کے دوران کتب  
کے الفاظ سے سلام کرتے ہوئے گزر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مطالعہ  
ہو گیا ہے۔ اگر ہم اس طرح مطالعہ کریں گے تو ہمیں پھر صمد کا کتنے نور ملے گا؟  
حالانکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کتابوں سے علم حاصل کیا جائے اور پھر اس کے  
مطابق اپنی زندگی گزارنے جائے۔

عزیز طلب! یکسوئی کے ساتھ علم حاصل کرنے جب جماعت میں بخشیں تو جم  
تن متوجہ ہو کر بات سنیں کلاس میں استاد پڑھار ہے ہوتے ہیں اور وہ کھلی آنکھ  
سوئے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک نئی چیز ہے کہ آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور دماغ  
سویا ہوا ہوتا ہے یہ آنکھ کے زمانے کے نئے طلباء کی نئی تحقیق ہے۔ وہ استاد کو  
با اکل پڑھنیں چاہئے ویتے کہ وہ سور ہے ہیں یا نہیں۔ لیکن وقت چلا جاتا ہے۔  
عزیز طلباء! یہ حقیقت میں نفس اور شیطان ہیں جو ہمیں علم سے محروم کرنا چاہتے  
ہیں وقت کی قدر کریں۔ یاد رکھیں کہ زندگی کا یہ وقت جو آپ کو ملا ہوا ہے یہ  
زندگی میں دوبارہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا

## وحدت مطلب

جب اس طرح ذوب کر کتاب پڑھیں گے تو پھر علوم و معارف کے مولیٰ  
سامنے آئیں گے اور انسان کو صحیح معنوں میں علم کا نور ملے گا۔ اس لئے ہمیں  
چاہئے کہ ہم شوق و ذوق کے ساتھ علم حاصل کریں۔ ہمیں صحیح و شامی یہی فکر ہو  
ادھر ادھر کے خیالات کو ذہن میں ہگز نہ آئیں۔ اس کو کہتے ہیں "وحدت  
مطلوب" یعنی کہ انسان کو ہر وقت اپنے مقصد کی فلکی ہوئی ہو اور یہی چیز اس  
کے پیش نظر ہو کہ میں نے تو علم حاصل کرنا ہے۔

شاہ عبدالقدیر رائے پوری نے اپنے حالات زندگی میں لاحقاً ہے کہ زمانہ  
علمی میں جب ۱۹۰۰ ور ان سال میں یہ عزیز واقارب نے ملود آتے تھے تو  
میں ذرے مارے وہ خط ہی نہیں پڑھا کرتا تھا بلکہ ان لوگوں میں رکھ دیتا تھا  
سوچتا تھا اگر کوئی خوشی کی خبر ہوگی تو تمہارے جانے کو دل کر گا اور اگر کوئی غم و خبر  
ہوگی تو پڑھاتی میں والی نہیں لگے گا، جس کی وجہ سے میں علم سے خبر ہو جاؤں

گا۔ میں وہ خطوط جمع کرتا رہتا تھا اور سال کے آخر میں جب میں شعبان کے شروع میں اپنے دارالعلوم کا امتحان دے کر فارغ ہو جاتا تو فارغ ہونے والے دن میں سارے خطوط نکالتا۔ انہیں پڑھتا اور ان کی فہرست بناتا، خوشی کی خبر والے خطوط کی علیحدہ فہرست اور غمی کی خبر والے خطوط کی علیحدہ فہرست بناتا۔ پھر میں اپنے گاؤں آتا، خوشی کی خبر والوں کو میں مبارکباد دیتا اور جن کو غم ملا ہوتا تھا ان کے سامنے تسلی و تشغی کے چند الفاظ کہہ دیتا تھا اس طرح لوگ مجھ سے خوش ہو جاتے کہ اس نے سارا سال ہماری بات یاد رکھی، لیکن ان کو کیا پڑتا کہ میں نے ان کا خط ہی اسی وقت پڑھا ہوتا تھا۔ تو جن حضرات نے دنیا میں علماء میں پائیں انہوں نے علم حاصل کرنے میں ایسی یکسوئی دلخانی۔ مگر آج کے طالب علم کو کتاب کے علاوہ خارجی باتوں کو سخت کا زیادہ شوق ہے چنانچہ جب تمدرا رکنے پڑھتے ہیں تو دو باتیں سبق کی اور تین باتیں باہر کی کرتے ہیں حتیٰ کہ کتاب پڑھتے ہوئے ملکوں کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ شیطان ان کو علم سے محروم کرنا چاہتا ہے لہذا باتوں میں لگادیتا ہے۔

## اسا تذہ کی قدر

جن اسا تذہ سے آپ اب علوم پار ہے میں معلوم نہیں کہ یہ اسا تذہ بعد میں آپ کو کبھی ملیں گے یا نہیں۔ اس نعمت کی قدر ان سے پوچھیں جن کے اسا تذہ خصت ہو چکے ہیں اور اب ان کو اپنا آپ بے سایہ نظر آتا ہے۔

حضرت شیخ الجہنہ نے تحریک ریشمی رو مال کے دران ارادہ فرمایا کہ اب میں ہر میں شریفین جاتا ہوں۔ ایک دن آپ دارالعلوم دیوبند میں چورپائی پر بیٹھے دھوپ میں زمین پر پاؤں رکھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے ان دونوں

علامہ محمد انور شاہ کشمیری حضرت کی عدم موجودگی میں بخاری شریف پڑھاتے تھے۔ اس دوران ان کی نظر حضرت پر پڑی۔ جب درس دے کر تھک گئے تو طلباء سے فرمایا کہ آپ تھوڑی دریمیں میں ابھی آتا ہوں۔ انہوں نے درس کو موقوف کیا اور دارالحدیث سے باہر نکل کر سیدھے حضرت کے پاس آ کر ان کے قدموں میں بینچے گئے۔ اس کے بعد حضرت سے عرض کرنے لگے، حضرت! پہلے آپ یہاں تھے۔ جب ہمیں ضرورت پڑتی تھی تو ہم آپ کی طرف رجوع کرتے تھے، آپ نے یہاں سے ہجرت کا ارادہ فرمایا ہے اس طرح تو ہم بے سایہ ہو جائیں گے۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے یہ الفاظ کہے اور وہ ناشروع کر دیا حتیٰ کہ انہوں نے بچوں کی طرح بلکہ ناشروع کر دیا۔ حضرت شیخ البند نے بھی انہیں رو نے دیا، جب ان کے دل کی بھڑاس نکل گئی تو اس وقت شیخ البند نے انہیں تسلی کی بات کہی اور فرمایا، انور شاہ! ہم تھے تو آپ ہماری طرف رجوع کرتے تھے اور جب ہم چلے جائیں گے تو پھر لوگ علم حاصل کرنے کیلئے تمہاری طرف رجوع کیا کریں گے۔ چنانچہ شاہ صاحب کو اس طرح کی تسلی کی باشیں کر کے واپس بھیج دیا۔

جب شاہ صاحب چلے گئے تو حضرت شیخ البند کے اپنے دل میں خیال آیا کہ ان کو تو اپنے استاد کی دعاؤں کی اتنی قدر ہے اور آج میں اتنے بڑے کام کیلئے جا رہا ہوں لیکن آج میرے سر پر تو استاد کا سایہ نہیں ہے جن کی دعائیں لے کر چلتا۔ چنانچہ یہ سوچتے ہی ان کو حضرت نانو توہی کا خیال آیا اور طبیعت میں رفت طاری ہوئی۔ لہذا وہیں سے اٹھے اور سیدھے حضرت نانو توہی کے گھر گئے، دروازے پر دستک دی اور ڈیوڑھی میں کھڑے ہو کر آواز دی، اماں جی!

میں محمود حسن ہوں، اگر حضرت نانو توی کے جوتے لھر میں پڑے ہیں تو وہ بھجوادیں۔ چنانچہ اماں جی نے ان کے جوتے ان کے پاس بھیج دیئے۔ حضرت شیخ الہند نے اپنے استاد کے جوتے اپنے سر پر رکھے اور اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ! آج میرے استاد سر پر نہیں ہیں، میں ان کے جوتے سر پر رکھے بیٹھا ہوں، اے اللہ! اس نسبت کی وجہ سے تو میری حفاظت فرمائیں اور مجھے اپنے مقصد میں کامیاب فرمادیں۔ تو استادوں کی قدر اس وقت آتی ہے جب دیکھنے کیلئے فقط ان کے جوتے باقی رہ جاتے ہیں۔

## چچے طالب بنیں

اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہوا ہے کہ اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر مم حاصل رہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کرنے کیلئے قرآن پاک نے ایک اصول بتا دیا ہے فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب اس قرآن کی باتوں میں ان کیلئے نصیحت ہے جن کے اندر دل ہو۔ بعض اوقات سینے میں دل کی بجائے سل بھی ہوتی ہے جس پر نصیحت کی باتوں کا پاکل ہی اثر نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا اُوْ الْقَوْمِ السَّمْعُ وَهُوَ شَهِيدٌ (ق ۳۷) ہمہ تن بوش اور حاضر باش ہو۔ گویا قرآن نے اصول بتا دیا ہے کہ قرآن ننانے والوں سے درس قرآن دینے والوں کی باتوں سے اور استادوں کی باتوں سے نتیجہ یہ نکلا۔ قرآن کی باتوں سے اس بندے کو فائدہ ہوتا ہے جس کے دل میں طب ہو وہ ہمہ تن بوش ہو اور حاضر باش ہوں لہذا اگر آپ اپنے اساتذہ کے سامنے ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو علم کے نور سے منور فرمادیں گے۔

## ایک عالم اور عام آدمی کی توبہ میں فرق

حضرت ابو ہریرہ رض سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک عالم کی توبہ پر اس کے چالیس گناہوں کو معاف فرمادیتے ہیں جبکہ عام آدمی کے اسی طرح توبہ کرنے پر صرف ایک نہاد معاف کرتے ہیں۔ محمد بن علی نے اسی حکمت لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ عام آدمی کی مثال سپاہی کی ہے اور عالم کی مثال جرنیل کی ہے ایک سپاہی بیمار ہوتا ہے اور ایک جرنیل بیمار ہوتا ہے تو کس کا صحمند ہونا زیادہ ضروری ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ جرنیل کا۔ کیونکہ اس نے پورے لشکر کو لڑانا ہوتا ہے اور جرنیل کے بغیر لشکر بے کار ہوتا ہے۔ جس طرح جرنیل بدنبال طور پر بیمار ہو جائے تو اس کا صحت مند ہونا پہلے ضروری ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جس وقت حزب اللہ (اللہ کا گروہ) دین کا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس میں جرنیل (عالم) کا صحمند ہونا زیادہ اہم ہوتا ہے۔ جیسے خیر کے موقع پر حضرت علی رض کی آنکھیں دھمکتی تھیں تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک لگایا اور اللہ تعالیٰ نے شفاء عطا فرمادی، پھر ان کے ہاتھ جھنڈا دے کر بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے لئے عطا فرمادی۔ لہذا جب عام آدمی اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک گناہ کو معاف کرتے ہیں جب کہ اتنا ہی استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ ایک عالم کے چالیس گناہوں کو معاف فرمادیتے ہیں۔

## اللہ کے لاڈلے

یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن و سنت کا عالم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمادی۔ آپ حضرات اللہ رب العزت کے یقیناً

پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ۳۴ اور ۳۵  
 الکتب الّدین اضطفینا من عبادنا (فاطر ۳۲) پھر ہم نے کتاب کا وارث  
 بنادیا اپنے بندوں میں سے ان کو جو ہمارے پنے ہوئے بندے تھے یاد و سرے  
 لفظوں میں یوں کہیں کہ جو ہمارے لاذ لے تھے۔

یاد رکھیں کہ آپ پر التدبیح العزت کی رحمت کی نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو  
 دینے کا ارادہ کر چکے ہیں اور اب لینا آپ کا کام ہے طلب جتنی زیادہ ہوگی اتنی  
 ہی بڑی جھوٹی پھیلی ہوگی اور جو جتنی بڑی جھوٹی پھیلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا  
 ہی عطا فرمائیں گے۔ وہ دینے والا بڑا کریم ہے۔ آپ کی طلب برتن کی مانند  
 ہے اگر علم کی عامتی طلب ہے تو پھر اتنا ہی برتن بھرا جائے گا اور اگر علم کی طلب  
 دل میں اتر چکی ہے اور ہر وقت اسی کی فکر رہتی ہے تو پھر برتن بھی بڑا ہو گا۔ اللہ  
 تعالیٰ طلب کے برتن بھر دیں گے اور علم کے نور سے مالا مال فرمادیں گے۔

## علم کو عمل کے ساتھے میں ڈھالیں

پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے اس سے بھی درجات ملتے  
 ہیں لیکن ایک آیت اور پڑھی تھی جس کا تعلق عمل کے ساتھ تھا۔ اس علم کو عمل کے  
 ساتھے میں ڈھال لینا ہے یعنی جو پڑھنا ہے ساتھ تھا اس پر عمل کرنا ہے اگر علم  
 پر عمل کرتے رہیں گے تو پھر علم ہمیشہ کیلئے آپ کے سینے میں جگہ پالے گا۔ یاد  
 رکھنا کہ علم عمل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اگر کھل جائے تو باقی رہتا ہے ذرثہ ہمیشہ  
 کیلئے رخصت ہو جاتا ہے۔

## اکابر کا علم پر عمل

ہمارے اکابرین علمائے دیوبند عالم کے آفتاب و ماہتاب تھے۔ یعنی انہوں نے جو کچھ عالم حاصل کیا اس کے ایک ایک جزو کو اپنے اوپر لا گو کرنے والے کھادیا۔ وہ سنت نبوی کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ ان کا سنت پر عمل اور شریعت پر استقامت کے عجیب و غریب واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔

● ۱۸۵۷ء میں انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی ناکام ہو گئی تو انگریزوں نے علمائے کرام کی پکڑ و حکڑ کا سلسلہ شروع کیا۔ اسی سلسلہ میں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی گرفتاری کے وارث بھی جاری ہو گئے۔ احباب نے باہم مشورہ کر کے حضرت کو ایک گھر میں چھپا دیا۔ حضرت تین دن تو روپوش رہے لیکن تین دن بعد زبردستی وہاں سے نکل آئے۔ احباب نے بہت زور اگایا کہ ابھی حالات درست نہیں ہیں باہر آنا آپ کے لئے خطرناک ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ اپنی زندگی میں تین دن ہی غارثور میں چھپے تھے لہذا امیں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی اس سنت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ

● حضرت مولانا حسین احمد مدینی کے سنت پر عمل کے واقعات بے شمار ہیں۔ خاص طور پر ان کا آخری رات تہجد کی نماز کی کیفیت عجیب ہوتی تھی۔ تہجد میں عموماً دو پارے تلاوات کرتے تھے اور قرات کے دوران اس قدر خشوع اور اتنا گریہ طاری ہوتا کہ سینے سے کھولتے سانسوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ نبی اکرم ﷺ کے بارے میں بھی احادیث میں یہی لکھا ہے کہ آپ نماز ایسی پڑھتے تھے کہ آپ کے اندر سے رونے کی وجہ سے ہانڈی کے جوش مارنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ لہذا آپ کی نماز میں اسی سنت کی اتباع ملتی ہے۔ نماز کے بعد آپ استغفار پڑھتے اور دعا مانگتے تو رو تے اور اس طرح سکیاں اور ہچکیاں لیتے جیسے کوئی بچہ پڑ رہا۔

حضرت مولانا خلیل احمد سہار نپوری کے حالت زندگی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ حج کیلئے تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں مملکت عرب میں سفر عموماً اونٹوں پر ہوتا تھا۔ سفر کی رہنمائی اور انتظامات کے سلسلے میں جیسے آج کل معلم ہوتے ہیں اس زمانے ان کو مطوف کہتے تھے۔ آپ نے اپنے مطوف سے پہلے ہی طے کر لیا کہ ہم نے حج کو سنت کے مطابق ادا کرنا ہے لہذا تم کوئی ایسی ترتیب نہ بنانا جو سنت کے مطابق نہ ہو۔

منی میں قیام کے دوران صبح صادق سے پہلے ہی مطوف آیا اور شور مجادیا کہ تیار ہو جاؤ عرفات کے لئے ابھی لکھنا ہے۔ اونٹ والوں نے بھی جلدی جلدی کی رست لگانی شروع کر دی۔ حضرت سہار نپوریؒ دونہیوں کے بیچ میں تجدید کی نماز میں مصروف قرأت قرآن سے شغل فرمادی ہے تھے۔ کیا مجال ہے کہ ان کے معمول پر ذرا برابر بھی فرق پڑا ہو۔ طویل قیام اور تعدد میں اركان کے ساتھ تسلی سے اپنی نماز مکمل کی۔ سلام پھیرنے کے بعد مطوف کی طرف متوجہ ہوئے اور غصے سے فرمایا تم نے تو وعدہ کر رکھا تھا کہ سنت کے خلاف کسی کام کیلئے نہ کہو گے پھر طلوع آفتاب سے پہلے چلنے کیلئے کہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ کہنے لگا میں کیا کروں اونٹ والے نہیں مانتے۔ اور یہ اونٹ لے کر چل دیئے تو حج فوت ہو جائے گا لہذا سنت کی خاطر فرض کو خطرے میں ڈالنا تو اچھی بات نہیں ہے۔ اس پر حضرت کا غصہ اور تیز ہو گیا۔ فرمایا ہم نے تمہیں مطوف مانا ہے کوئی استاد اور پیر تو نہیں بنالیا۔ جاؤ اپنا کام کرو ہم تو سورج نکلنے سے ایک منٹ پہلے نہیں اٹھیں گے۔ ہم اپنا مال اور اوقت صرف کر کے اتنی صعبتوں بھرا سفر کر کے آتے

ہیں تاکہ سنت کے مطابق حج ادا کریں۔ تمہارے جمالوں (اوٹ والے) کے غلام بننے نہیں آتے۔ جمالوں کو اپنے اوٹوں پر اختیار ہے وہ انَّ لے جائیں۔ ہمارے اوپر ان کو کوئی اختیار نہیں کہ اٹھنے پر مجبور کریں۔ تم نے ب وقت شور مچا کر ہمیں پریشان کیا اور نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھنے دی لہذا ہم تمہیں بھی آزاد کرتے ہیں تم اپنے دوسرے حاجیوں کو لے جاؤ اور ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ ہم کوئی لوٹے لئے نہیں عرفات کوئی اتنا دوسری نہیں ہے ہم پیدل ہی انشاء اللہ سفر کر لیں گے لیکن سنت کو نہیں چھوڑیں گے۔

تو یہ ہمارے اکابر علمائے دیوبند کی شان تھی کہ کسی حال میں بھی سنت کو ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ جب دل میں یہ جذبہ ہو گا کہ ہم نے جو علم حاصل کرنا ہے اس پر عمل کرنا ہے اور اپنی زندگی میں سنتوں پر عمل کرنا ہے تو اللہ رب العزت علم کا نور آپ کے سینہ میں ہمیشہ کیلئے عطا فرمادیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کریں دنیا کی شہرت کیلئے نہ کریں۔ رب کریم اپنی رضا کیلئے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

## ایک چھوٹی پچی کی نصیحت

یہ بات یاد رکھیں کہ علماء کیلئے احتیاط کی زندگی گزارنا زیادہ اہم ہے۔ حضرت حسن بصریؓ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک چھوٹی پچی نے نصیحت کی جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ کسی نے پوچھا، حضرت! کوئی نصیحت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ بارش کا موسم تھا میں نماز پڑھنے کیلئے مسجد جا رہا تھا، راستے میں پھسلن تھی سامنے سے ایک چھوٹی سی پچی آرہی تھی، گزرتے ہوئے میں نے اس پچی سے کہا، ذرا احتیاط کرنا کہ کہیں پھسل نہ جانا۔ ہم نے

آگے سے جواب دیا، حضرت! میں تو احتیاط کروں گی ہی سہی مگر آپ بھی احتیاط کر لینا، کیونکہ اگر میں پھسلی تو میری ذات کو نقصان ہو گا اور اگر آپ پھسل گئے تو پھرامت کا کیا بنے گا؟ - ہمارے لئے بھی یہ بات ایک نصیحت ہے آپ حضرات استقامت کے ساتھ شریعت و سنت پر عمل کریں، اللہ رب العزت اس علم و عمل کے صدقے دنیا و آخرت میں آپ کو عز تین عطا فرمائیں گے۔  
 پروردگار عالم آپ سب حضرات کا یہاں آنا اور علم کیلئے کوشش کرنا قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔  
 (آمین ثم آمین)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



ایمان کی عظمت

کلمہ پڑھ لینے سے کام مکمل نہیں ہوتا بلکہ کام کی ابتداء ہوتی ہے۔ انسان کلمہ پڑھ کر اسلام کی حدود میں تو داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایمان کامل پیدا کرنے کیلئے اعمال صالح کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اور ایمان لانے کے بعد انسان کو انہی دو باتوں کی تلقین کی جاتی ہے۔ اقرار باللسان کا درجہ تو انسان کو کلمہ پڑھنے ہی نصیب ہو جاتا ہے لیکن تصدیق بالقلب میں مراد ہیں جو جتنے نیک اعمال کرتا ہے وہ اس بات کی اتنی ہی تصدیق کرتا ہے۔

## ایمان کی عظمت

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰی وَسَلَّمَ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَفَیَ امَّا بَعْدُ!  
 اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا امْنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ  
 سُبْخَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَّمَ عَلٰی الْمُرْسَلِينَ  
 وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِينِ ۝

## ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ ایمان والو! امْنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اے  
 کے رسول ﷺ پر ایمان لے آؤ۔ یہ ایک بھیب آیت ہے کیونکہ خطاب بھی  
 ایمان والوں کو ہے یہ تو نہیں کہا یا یہا الذین کفروا اے کافرو! یہ بھی نہیں کہا  
 یا یہا الذین نافقوا اے منافقو! یہ بھی نہیں کہا یا یہا الذین اشر کوا، اے  
 مشرکو! بلکہ فرمائے ہیں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ ایمان والو! امْنُوا بِاللّٰهِ  
 وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لے آؤ۔ دوسرا دفعہ ایمان  
 لانے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے اس کی تفسیر لکھی ہے اس کا مطلب ہے  
 اتَّقُوا یعنی تم تقوی اختیار کرو۔ ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ اے زبان سے  
 اقرار کرنے والو! اپنے دل سے بھی اس کی تصدیق کرو۔

## اقرائی اور تصدیق قلبی

دل سے تصدیق کرنا ایک بڑا کام ہے

تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا

لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی

کلمہ پڑھ لینے سے کام مکمل نہیں ہوتا بلکہ کام کی ابتداء ہوتی ہے۔ انسان کلمہ پڑھ کر اسلام کی حدود میں تو داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایمان کامل پیدا کرنے کیلئے اعمال صالح کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اور ایمان لانے کے بعد انسان کو انہی دو باتوں کی تلقین کی جاتی ہے۔ اقرار باللسان کا درجہ تو انسان کو کلمہ پڑھنے ہی نصیب ہو جاتا ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے والے جتنے بھی ہیں سب کے سب اقرار باللسان میں سو فیصد شامل ہیں۔ لیکن متصدیق بالقلب میں مراتب ہیں جو جتنے نیک اعمال کرتا ہے وہ اس بات کی اتنی می تصدیق کرتا ہے لہذا جو کامل مومن ہو گا وہ اعمال کے ذریعے اس کی سو فیصد تصدیق کرے گا اس کا کوئی عمل بھی خلاف شرع نہ ہو گا۔

## کروار کے غازی بننے کی ضرورت

قول اور فعل دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ قول سے فعل تک بات پہنچانے کیلئے کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ زبان سے بات کہہ دینا اور چیز ہے اور عمل سے اس کو ثابت کر دینا اور چیز ہے۔ آج یہی چیز تو زیادہ توجہ طلب ہے۔ ہم قال کے تو غازی ہیں مگر اعمال میں شکست کھانے والے ہیں

علامہ اقبال نے اپنے بارے میں کہا:

اقبال بڑا پدیشک ہے مگن باتوں میں موجہ لیتا ہے  
گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ کا  
بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گفتار کا غازی اور چیز ہے اور کردار کا غازی اور چیز  
ہے۔ پہکہ علامہ اقبال اسی انظم کے مطلع میں مسلمانوں کی حالت زار پر یوں  
رمطراز ہیں۔

مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے  
من اپنا پرانا پانپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا

### ایمان کی نشاندہی

درactual ایمان کی نشاندہی انسان کے اعمال سے ہوتی ہے۔ جس قدر  
اعمال میں پختگی ہوتی ہے اسی قدر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ پھر انسان کا عمل ہی  
تبليغ کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس لئے خاموش تبلیغ جتنی موثر ہے اتنی زبانی  
تبليغ موثر نہیں ہے

### معاملات ہوں تو ایسے

آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں پورا ملک دو صحابہ کرام کے دکان بنانے  
سے مسلمان ہو گیا۔ وہ کیسے؟..... دو صحابہ کرام انہوں نیشاں میں گئے وہاں جا کر  
انہوں نے اپنی دکان بنالی، وہ دن میں پانچ مرتبہ دکان بند بھی کرتے اور جمعہ  
کے دن چھٹی بھی کرتے۔ جب وہ دکان سے چلے جاتے تو لوگ ان کے انتظار  
میں کھڑے رہتے اور قطار میں بھی لگی رہتیں لوگ کہتے کہ ہم نے یہاں معاملات

کی صفائی دیکھی ہے لہذا ہم تو سو دلائی سی مانوس ہو گئیں تو لوگوں نے ان سے پوچھا، بھی! کیا بات ہے کہ آپ درمیان میں دکان بند کر کے چلے جاتے ہیں اور لوگ پھر بھی آپ سے سودا لینا پسند کرتے ہیں۔ آپ کو دکانداری کے یہ اصول کس نے بتائے ہیں؟

لوگوں کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں تجارت کے یہ اصول بتائے ہیں۔ جب ان لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا ہم بھی مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ چنانچہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے حتیٰ کہ ان دو صحابہ کرامؓ کی برکت سے پورے ملک کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ

غور کیجئے کہ آج کل تو لوگ تقریروں اور خطبوں سے مسلمان نہیں ہوتے مگر صحابہ کرامؓ کی دکانداری سے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ یہ ہوتی ہے قول اور فعل میں مطابقت۔

## لحظہ فکر یہ

آج جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہم ذرا غور کریں کہ کیا ہماری آنکھیں مسلمان بن گئیں؟ اگر یہ مسلمان بن چکی ہیں تو یہ پھر غیر محروم کی طرف نہیں اٹھیں گی۔ اگر غیر محروم کی طرف اٹھ جاتی ہیں تو ابھی مسلمان نہیں بنیں۔ کیا یہ زبان مسلمان بن چکی ہے؟ اگر بن گئی ہے تو اس سے جھوٹ اور غیبت نہیں نکل سکتی اور اگر نکلتی ہے تو پھر ابھی مسلمان نہیں بنی۔ کیا ہمارے کان مسلمان بن گئے؟ اگر یہ بن چکے ہیں تو پھر اب خلاف شرع باقی نہیں سن سکتے۔ اگر سنتے ہیں تو پھر ابھی نہیں بنے۔ کیا ہماری شرمگاہ مسلمان بن چکی ہے؟ اگر یہ مسلمان

بن چکی ہے تو پھر اس سے خطا نہیں ہو سکتی۔ اگر خطا ہو جاتی ہے تو پھر ابھی مسلمان نہیں بنی۔ ہم اپنے ہر ہر عضو کے بارے میں سوچیں کہ ہم نے اپنے کس کس عضو کو مسلمان بنالیا ہے اگر ہر ہر عضو گناہوں میں لمحزا ہوا نظر آتا ہے تو سوچنے کہ مسلمانی کس چیز کا نام ہے۔ جب یہ اعضاء انفرادی طور پر ابھی مسلمان نہیں بننے تو ہم اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں کیسے مسلمان کہہ سکتے ہیں۔

خود نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل  
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

## ایمان کا مقام

دل ایمان کا محل ہے جو کہ ایمان سے بھرتا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے حتیٰ کہ انسان کے پاس اس کی جان سے بھی زیادہ قیمتی دولت اس کا ایمان ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ایمان کی اتنی قیمت ہے کہ اگر ساری دنیا کافروں سے بھر جائے تو وہ ایک مومن کے برابر نہیں ہو سکتے۔ قیامت کے دن ایک آدمی ننانوے دفتر گناہوں کے لے کر آئے گا اور اس کے مقابلے میں ایک فرشتے کے پاس ایک چھوٹی سی پرچی ہو گی۔ فرشتے اس پر پچی کونیکیوں کے پلڑے میں رکھ دے گا۔ کاغذ کا وہ پر زدہ اس کے گناہوں کے ننانوے دفتروں سے بھاری ہو جائے گا۔ وہ پوچھئے گا، یا اللہ! یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ یہ تیرا ایمان ہے، اس ایمان کے مقابلہ میں زمین و آسمان کو رکھ دیا جائے تو بھی ایمان بھاری ہو گا۔ ہمیں بھی یہ چیز اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ ہمارا ایمان ہماری اصل دولت اور خزانہ ہے۔ کیونکہ جب انسان کو کسی چیز کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ اسے آسمانی سے گنوادیتا ہے۔ مثلاً ڈاکو ڈاک کے

ڈال لیتے ہیں اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔

## ایک ولچسپ حکایت

شیخ سعدی نے ایک حکایت لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوننا ساتھا تو میری والدہ نے مجھے سونے کی انگوٹھی بنوا کر دی۔ میں انگوٹھی پہن کر باہر نکلا تو مجھے ایک ٹھگ مل گیا۔ اس کے پاس گڑ کی ڈلی تھی۔ اس نے مجھے باایا اور ہاکہ یہ چکھو۔ میں نے گڑ کو چکھا تو میٹھا لگا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اب اپنی انگوٹھی کو چکھو۔ جب میں نے اپنی انگوٹھی کو چکھا تو کچھ لذت محسوس نہ ہوئی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ بے لذت چیز دے دو اور لذت والی چیز لے لو۔ میں نے اس کی باتوں میں آ کر اسے سونے کی انگوٹھی دے دی اور گڑ کی ڈلی لے لی۔

## ایمان اور مشاہدہ میں فرق

یہ عاجز اس بات کو سمجھانے کی خاطر آپ حضرات سے ایک سوال پوچھتا ہے آپ اس کا جواب دیجئے گا۔ کیا آپ حضرات کا ایمان ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے؟ (سامعین نے بیک زبان ہو کر کہا، جی ہاں) سب حضرات فرم رہے ہیں، جی ہاں۔ حالانکہ یہ جواب غلط ہے۔ سوال یہ تھا کہ کیا آپ کا ایمان ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے اور آپ دیکھ کر فرمادے ہیں، جی ہاں۔ میرے بھائی! دیکھ کر کہنا تو مشاہدہ کہلاتا ہے، لہذا یہ ایمان نہیں ہے۔ اگر یہ عاجز یہ سوال کرتا کہ کیا آپ کا ایمان ہے کہ میری جیب میں قلم ہے اور آپ مجھ پر یقین کرتے ہوئے کہ منبر پر بیٹھ کر کیوں جھوٹ بولیں گے تصدیق کر دیتے تو پھر یہ ایمان ہوتا لہذا آپ تو یہ مشاہدہ ہے۔ ایمان اور مشاہدہ کے درمیان فرق کرنے

کی ضرورت ہے۔ دیکھنا کچھ اور چیز ہے اور بن دیکھے کسی پر اعتماد کر کے کچھ مان لینا اور چیز ہے۔ ایمان یہ ہے کہ تم نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اعتماد کرتے ہوئے ہر اس چیز کو تسلیم کر لیا جو وہ اپنے رب کی طرف سے لے کر آئے۔ یہ بن دیکھا سودا ہے جب دیکھ لیں گے تو پھر اس کی قیمت نہیں رہے گی۔

## ایک سبق آموز حکایت

کتابوں میں ایک حکایت لکھی ہے اس سے آپ کو بات ذرا جلدی سمجھ آجائے گی۔ ہارون الرشید کے زمانے میں بہلوں دانانامی ایک بزرگ گزرے ہیں وہ مجدوب اور صاحب حال تھے۔ ہارون الرشید ان کا بڑا احترام کرتا تھا۔ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ خاتون بھی ایک نیک اور پارساعورت تھی۔ اس نے اپنے محل میں ایک ہزار ایسی خادمانیں رکھی ہوئی تھیں جو قرآن کی حافظہ اور قاری تھیں۔ اب سب کی ڈیونیاں مختلف شفنوں میں لگی ہوئی تھیں۔ چنانچہ اس کے محل میں چوبیں گھنٹے ان بچیوں کے قرآن پڑھنے کی آواز آرہی ہوتی تھی۔ اس کا محل قرآن کا گلشن محسوس ہوتا تھا۔

ایک دن ہارون الرشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا کہ ایک جگہ بہلوں دانانامی کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا، السلام علیکم بہلوں دانانامی نے جواب میں کہا، وعلیکم السلام۔ ہارون الرشید نے کہا، بہلوں! کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ریت کے گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا، کس لئے بنا رہے ہو؟ بہلوں نے جواب دیا کہ جو آدمی اس کو خریدے گا میں اس کیلئے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت اس کے بد لے اس کو جنت میں گھر عطا فرمادے، بادشاہ نے پوچھا، بہلوں! اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک

دینار۔ ہارون الرشید سمجھا کہ یہ ایک دیوانے کی بڑی ہے لہذا وہ آگے چلا گیا۔

اس کے پیچھے زبیدہ خاتون آئیں۔ اس نے بہلوں کو سلام کیا۔ پھر پوچھا،  
بہلو! کیا کرو رہے ہو؟ انہوں نے کہا، میں گھر بنارہا ہوں۔ اس نے پوچھا،  
کس لئے گھر بنارہ ہے ہو؟ بہلو نے کہا کہ جو آدمی اس گھر کو خریدے گا میں  
اس کیلئے دعا کروں گا کہ یا اللہ! اس کے بدلتے اس کو جنت میں گھر عطا فرم  
دے۔ اس نے پوچھا، بہلو! اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ بہلو نے کہا، ایک  
دینار۔ زبیدہ خاتون نے ایک دینار نکال کر اس کو دے دیا اور کہا کہ میرے  
لئے دعا کر دینا۔ وہ دعا کروا کر چلی گئی۔

رات کو جب ہارون الرشید سویا تو اس نے خواب میں جنت کے مناظر  
دیکھے۔ آبشاریں، مرغزاریں اور پھل پھول دیکھنے کے علاوہ بڑے اوپنجے  
اوپنجے خوبصورت محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر  
اس نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون الرشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو  
سمی کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لئے جیسے ہی  
دروازے پر پہنچا تو ایک دربان نے اسے روک لیا۔ ہارون الرشید کہنے لگا، اس  
پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے اس لئے میں نے اندر جانا ہے۔ اس نے کہا،  
نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت  
ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں  
ہے۔ جب دربان نے ہارون الرشید کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اے  
بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ بہلوں کی دعا زبیدہ کے حق میں  
التدرب العزت کے ہاں قبول ہو گئی۔ پھر اسے اپنے آپ پر افسوس ہوا کہ میں

بھی اپنے لئے ایک گھر خرید لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کر دیں بدل تارہا۔ صبح ہوئی تو اس نے دل میں سوچا کہ آج پھر میں ضرور دریا کے کنارے جاؤں گا۔ اگر آج مجھے بہلوں ملے تو میں بھی ایک مکان ضرور خریدوں گا۔

چنانچہ شام کو پھر بیوی کو لے کر چل پڑا۔ وہ بہلوں کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جگہ بہلوں بیٹھا اسی طرح کے مکان بنارہا تھا۔ اس نے کہا، السلام علیکم! بہلوں نے جواب میں و علیکم السلام کہا۔ ہا، و ان الرشید نے پوچھا، کیا کرو ہے ہو؟ بہلوں نے کہا، میں گھر بنارہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کس لئے؟ بہلوں نے کہا، جو آدمی یہ گھر خریدے گا میں اس کے لئے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے بد لے جنت میں گھر عطا کر دے۔ ہارون الرشید نے پوچھا، بہلو! اس کی قیمت کیا ہے؟ بہلوں نے کہا، اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون الرشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں دے بھی نہیں سکتا۔ کل تو ایک دینار کے بد لے دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگتے ہو۔ بہلوں نے کہا، بادشاہ سلامت! کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ کل بن دیکھا سودا تھا اس لئے ستامل رہا تھا اور آج چونکہ دیکھے کے آئے ہوا س لئے اب اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گی۔

ہماری مثال ایسے ہی ہے کہ آج ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو بن دیکھے مانا ہے اس لئے جنت بڑی سستی ہے۔ لیکن جب موت کے وقت آخرت کی نشانیاں دیکھ لیں گے تو اس کے بعد پھر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يُوْدُ الْمُجْرُمُ لَوْ يُفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِنْبَنِيَهُ وَصَاحِبِهِ وَ  
أَخْيَهُ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْتَيْهُ وَمِنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ  
يُنْجِيَهُ (المعارج: ۱۲-۱۳)

روز محشر مجرم یہ تناکرے گا کہ کاش! میں اپنی سزا کے بد لے میں اپنا بیٹھے  
دے دیتا، بیوی دے دیتا، خاندان والے دے دیتا، حتیٰ کہ جو پچھہ دنپا میں ہے  
وہ سب دے دیتا اور میں جہنم سے نجی چاتا۔ فرمایا، کلا ہر گز نہیں، ہر گز نہیں۔

## سب سے زیادہ عجیب ایمان

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک مرتبہ جہاد سے واپس تشریف لاتے  
ہوئے دریا کے کنارے پر پڑا وڈا لا۔ آپ اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے اور  
آپ نے اسی وقت تمیم فرمایا۔ ایک صلبی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی علیہ  
الصلوٰۃ والسلام! وہ سامنے پانی ہے۔ فرمایا، ہاں، کیا معلوم کہ یہاں سے وہاں  
جانے تک میری زندگی ساتھ دے گی یا نہیں دے گی۔ اس لئے میں نے احتیاطاً  
تمیم کر لیا ہے۔ پھر آپ شریعت نے جا روضوفرمایا اور نماز ادا کی۔

اس کے بعد سجا پ کرام آپ شریعت کے گرد حلقہ بنائے کر بیٹھے گئے۔ نبی علیہ  
الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے سچے سچے! یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ عجیب  
ایمان کن کا ہے؟ سچے ہے نے کہا، اے اللہ کے نبی شریعت! سب سے زیادہ عجیب  
ایمان فرشتوں کا ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، نہیں۔ فرشتے کیے  
ایمان نہیں لائیں گے، وہ تو نور سے بنتے ہیں، جہش کے اوپر کے جہان کو دیکھتے  
ہیں اور وہ اللہ کی معصیت کر جی نہیں سکتے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمادیا  
لَا يَعْصُوْنَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَ يَفْعُلُوْنَ مَا يُؤْمِرُوْنَ (اتحریم: ۶) لہذا ان کا ایمان

تو اتنا عجیب نہیں ہے۔

صحابہ کرامؐ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی ﷺ! پھر انبیاءؑ کرامؐ کا ایمان بڑا عجیب ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس لئے کہ انبیاءؑ کرامؐ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اترتی ہے اُنہیں معجزات ملتے ہیں۔ اگر انبیاءؑ کرامؐ ہی ایمان نہیں لا سکیں گے تو اور کون ایمان لائے گا۔

صحابہ کرامؐ نے حیران ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی ﷺ! اگر ان کا ایمان بھی اتنا عجیب نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان عجیب ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نہیں۔ تمہارا ایمان بھی اتنا عجیب نہیں ہے کیونکہ تم نے میرا دیدار کیا ہے، تم نے جبرائیلؐ کو اترتے دیکھا ہے اور تمہارے سامنے قرآن آیا ہے، جب تم نے اتنی نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا بھی مشاہدہ کر لیا تو پھر تمہارا ایمان بھی اتنا عجیب نہیں ہے۔

اس کے بعد صحابہ کرامؐ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی ﷺ! اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کا ایمان زیادہ عجیب ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہؓ! میرے بعد میری امت کے پچھے لوگ آئیں گے، وہ میرے پردہ فرمائے جانے کے سینکڑوں سال بعد پیدا ہوں گے، وہ لوگ ایسے وقت میں آئیں گے جب نہ تو وہ میرا دیدار کریں گے، نہ وہ قرآن کو اترتے دیکھیں گے اور نہ فرشتوں کو اترتے دیکھیں گے، مزید برآں ہر طرف فتنے ہوں گے شکوک و شبہات پیدا کئے جائیں گے لیکن جب ہم، ان کے سامنے میری باتوں کو پیش کریں گے تو وہ میری محبت میں اس بات کو بن دیکھے مان لیں گے، ان لوگوں کا ایمان اللہ رب العزت کے ہاں بڑا ہی

عجیب ہو گا۔

## استقامت کی اہمیت

یقیناً یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم نے اللہ اور رسول ﷺ کو بن دیکھے مانا ہے۔ اس مشکلۃ نبوت کو فروزان ہوئے چودہ سو سال گزر چکے ہیں۔ آج چاروں طرف فتنے ہیں، ظلمت ہے، فساد ہے، ہر طرف لوگ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لئے تیار ہیں اور آج سیدھے راستے سے ہٹانے کے لئے لوگ موجود ہیں۔ اس وقت جو ایمان کے اوپر جمار ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں بڑا درجہ والا ہے۔

## زندگی گزارنے کے دو طریقے

زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ نظر کی زندگی گزارنا، یعنی جو کچھ آنکھ دیکھتی ہے اس کو مان لینا مثلاً آنکھ دیکھتی ہے کہ رشوٰت لینے میں فائدہ ہے، پسیہ آ رہا ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے کہ دھوکہ دے کر مال کماو، منافع زیادہ ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے کہ ملاوٹ کر لیں تو زیادہ آمدی ہوتی ہے۔ یعنی آنکھ دیکھتی ہے کہ ان کاموں میں زیادہ فائدہ ہے اب جو بندہ اس پر عمل کرے گا وہ گویا مشاہدہ اور نظر کی زندگی گزارنے والا ہو گا اور دوسرا طریقہ ہے خبر کی زندگی گزارنا۔ مثلاً ایک آدمی اللہ رب العزت کے حکموں کو دیکھتا ہے، کہ ملاوٹ کرنے سے منع فرمادیا گیا ہے اس لئے نقصان کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ رشوٰت لینا گناہ ہے لہذا وہ پیچھے رک جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کو دھوکہ دے کر مال حاصل کرنا گناہ ہے لہذا وہ پھر بھی پیچھے ہٹ جاتا

ہے۔ اس کو ایمان والی زندگی بھی کہتے ہیں۔

بالفاظ دیگر خبر کی زندگی سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو دین ملا اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کر لیا جائے اور جو آدمی اپنی آنکھ سے دیکھتا پھرتا ہے شرعی یا غیر شرعی ہر طریقے سے فائدے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے وہ نظر کی زندگی گزارنے والا ہے۔ یاد رکھنا کہ ہماری کامیابی خبر کی زندگی گزارنے میں ہے نظر کی زندگی گزارنے میں نہیں ہے۔ مثالوں سے بات واضح کرنے کی کوشش کی۔

## پہلی مثال

جادوگروں سے مقابلے کے دوران سیدنا موسیٰ ﷺ کے چاروں طرف سائب موجود ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں فقط عصا ہے۔ اگر ایسی حالت میں عقل سے پوچھیں کہ کیا کوہا چاہئے تو عقل کہے گی کہ اپنی لاثمی کو مضبوطی سے پکڑیں اور جو سائب آپ کے قریب آئے یہ لاثمی اس کے سر پہ ماریں اور اسے کچل کر رکھ دیں۔ اس طرح آپ نجع جائیں گے مگر لاثمی کو ہاتھ سے مت چھوڑ دا، اگر چھوڑ دیتے تو امید کا آخری سہارا بھی ختم ہو جائے گا۔ اوپر پروردگار سے پوچھیں کہ اس حالت میں مجھے کیا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے، اے میرے پیارے موسیٰ ﷺ! ان الٰقِ عصاک آپ اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیجئے۔ اب عقل چھپتی ہے، چلاتی ہے، شور مچاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں نہیں، لاثمی کو زمین پر نہ ڈالنا ورنہ تمہاری امید کی آخری کرن بھی ختم ہو جائے گی۔ مگر حضرت موسیٰ ﷺ اللہ رب العزت کے پیغمبر تھے، لہذا انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ ﷺ نے عصا کو زمین

پڑا لا وہ عصا اڑ دھا بن گیا اس نے سب سانپوں کو کھالیا اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب فرمادیا۔

## دوسری مثال

حضرت موسیٰ علیہم کے سامنے دریائے نیل ہے اور چیچھے فرعون کی فوج ظفر موجود ہے۔ جب موسیٰ علیہم کے صحابہ نے دیکھا تو کہا قالَ أَضْحِبُ مُوسَى إِنَّا لَمُذْرَكُونَ (الشرا، ۶۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے کہا کہ اب تو ہم پکڑے گئے۔ قَالَ كَلَّا فَرِمَا يَهُرْغَزْنَاهُنَّ۔ ایک یقین بھری آواز اٹھی ان میںی رَبِّی سَيَهْدِیْنَ میرا رب میرے ساتھ ہے وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔

اب ایسے موقع پر عقل سے پوچھیں کہ بندے کو کیا کرنا چاہئے۔ عقل کہے گی کہ آگے پانی کا دریا ہے اور چیچھے انسانوں کا دریا ہے اور تم دونوں کے درمیان میں ہو۔ تمہارے ہاتھ میں صرف لاثمی ہے تم اسے مضبوطی سے پکڑنا اور دشمن کا ذلت کر مقابلہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھئے کہ رب کریم! ان حالات میں کیا کرنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے موسیٰ علیہم! أَنْ إِضْرِبْ بِعَصَمَ الْبَخْرِ آپ اس لاثمی کو پانی پر ماریے۔ عقل چیختی ہے چلا تی ہے، شور مچاتی ہے اور کہتی ہے کہ پانی پر لاثمی مارو گے تو کیا بنے گا، اگر لاثمی مارنی ہی ہے تو فرعون کے سر پر مارو، پانی پر مارنے سے کیا ملے گا؟ مگر حضرت موسیٰ علیہم نے وہی کام کیا جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہم نے جب عصا کو پانی پر مارا تو بارہ راستے بن گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب فرمادیا اور فرعون اور اس

کی قوم کو دریا میں غرق فرمادیا۔

## تیسرا نی مثال

جب حضرت موسیٰ علیہم بنی اسرائیل کو لے کر دریا سے آگے وادیء تجہیہ میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پانی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہم کی امت کے لوگ پانی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوئے اور کہنے لگے، حضرت! یہاں تو پانی بھی نہیں ہے، کیا کریں؟ اس موقع پر عقل سے پوچھیں تو عقل کہتی ہے کہ آپ کے پاس اس وقت اور تو کوئی ہتھیار نہیں ہے، صرف ایک لاٹھی ہے لہذا آپ اس لاٹھی کی مدد سے ایک گڑھا کھو دیں، ہو سکتا ہے کہ اس گڑھے میں سے پانی نکل آئے، لیکن ذرا آہستہ آہستہ احتیاط سے کھو دنا تا کہ کہیں لاٹھی ٹوٹ نہ جائے، اگر لاٹھی ٹوٹ گئی تو امید کا آخری سہارا بھی ختم ہو جائے گا۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے پوچھئے کہ یا اللہ! اب کیا کرنا چاہئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے پیارے نبی علیہ السلام! ان اضرب بِعَصَمَ الْحَجَرِ آپ پھر پرلاٹھی ماریئے۔ جب عقل سنتی ہے کہ پھر پرلاٹھی ماریئے تو عقل پھر جران ہو کر کہتی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر پر ماریں گے تو لاٹھی بھی ٹوٹ جائے گی اور امید کا آخری سہارا بھی ختم ہو جائے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام نے وہی کیا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ لہذا جب پھر پر مارا تو پھر میں سے چشمے جاری ہو گئے اور اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب فرمادیا۔ ان مثالوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نظر کے راستے پر چلنے والے ناکام ہوتے ہیں جب کہ خبر کے راستے پر زندگی گزارنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔

## اللہ تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ چھٹ جائیں

کفار نظر کے راستے پر عمل کرنے والے ہیں اور موسیٰ مسلمان خبر کے راستے پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس لئے یہ بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لجھے کہ ہم نے دنیا کے فائدوں کو نہیں دیکھنا بلکہ ہم نے اللہ رب العزت کے حکموں کو دیکھنا ہے۔ ہمیں جو مرضی سامنے نظر آئے حتیٰ کہ بہت سے فائدے بھی نظر آئیں تو ہم ان کو ٹھوکر لگا کر اللہ کے حکموں کے ساتھ چھٹ جائیں گے۔

## انسان اور آزمائش

اللہ رب العزت کی طرف سے اس دنیا میں ہر انسان پر آزمائشیں آتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ خبر کے راستے پر زندگی گزارنے والوں کو ہمیشہ کامیاب فرمادیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا إِنَّا وَهُمْ لَا يَفْتَنُونَ (العنکبوت: ٢) کیا انسانوں نے یہ گمان کیا کہ وہ چھوڑ دیجئے جائیں گے اگر وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَأَذَّلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تَحْقِيقٌ هُمْ نَعْلَمُ بِآزْمَایَا ان سے پہلے والوں کو بھی فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَلَذِبِينَ اور اللہ تعالیٰ کھرے اور کھونے کو پہچان کر رہے گا۔ لہذا انسان یہ گمان نہ کرے کہ ہم ایمان لے آئے اور اب ہمیں آزمایا نہیں جائے گا اور بس اتنی ہی بات کافی ہو جائے گی۔ ہاں تاں تاں، بلکہ اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثُّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ (آل بقرہ: ١٥٥)

ہم ان کو مختلف طریقوں سے آزمائیں گے اور جو ان تمام آزمائشوں میں کامیابی پائیں گے ان کو آپ بشارت سنادیجئے۔ ثابت یہ ہوا کہ اللہ رب العزت بغیر آزمائے کسی کے ایمان کو قبول نہیں کریں گے۔

## ہر حال آزمائش کا حال

اللہ رب العزت ہر انسان کو آزماتے ہیں۔ جس کے پاس پیسہ و افر ہے، پیسہ اس کے لئے آزمائش ہے۔ جو غریب ہے اس کے لئے غربت آزمائش ہے، جس کو صحت ملی ہے اس کے لئے صحت آزمائش ہے، جو بیمار ہے اس کے لئے بیماری آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت ہر آدمی کو مختلف حالات میں رکھتے ہیں اور جس حالت میں اس کو رکھا جاتا ہے وہ اس حال میں آزمایا جا رہا ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ وہ واقعی دل سے ایمان لانے والوں میں سے ہے یا نہیں۔ جو اچھے حال میں ہوا سے چاہئے کہ شکر ادا کرے جو بڑے حال میں ہوا سے چاہئے کہ صبر کرے۔ شکر کرنے والا بھی خستی اور صبر کرنے والا بھی خستی ہو گا۔

## ادلتے بدلتے دن

اللہ تعالیٰ انسان کو ہمیشہ ایک ہی حال میں نہیں رکھتے بلکہ وہ بلکہ الائام نَذَاوِلَهَا بَيْنَ النَّاسِ (آل عمران: ۱۲۰) اور ہم انسانوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ آج جس گھر میں خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں کل اسی گھر میں روتا پیٹتا ہو رہا ہوتا ہے۔ جو آج جوانی کے نشے میں مخور ہوتا ہے کل وہی بستر عالات پر صاحب فراش ہوتا ہے۔

خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں  
جہاں بھتی ہے شہنازیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں

## آزمائش میں ڈالنے کا مقصد

یاد رکھنا! آج اگر ہم نے برتن خریدنے ہوں تو ان کو بھی ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ایمان کے معاملے میں بندے کو ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں اور بندے کے ایمان کا فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ جو کچھے یقین والے ہوتے ہیں وہ پیچھے بھاگ جاتے ہیں اور فقط وہی جنمے رہتے ہیں جن کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے۔

## ایمان کا امتحان

آزمائشیں اللہ والوں پر بھی آیا کرتی ہیں۔ پہلے زمانے میں بھی آزمائش تھیں اور آج کے زمانے میں بھی آزمائشیں ہیں۔ اوپر سے بارش بند ہے، نیچے سے چشمے بند ہیں اور درختوں پر پھل نہیں ہیں۔ ایسے میں اللہ پر یقین کیسے رکھنا۔ دوسری طرف سے اہداؤں کی بھرمار لگی ہوئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جلدی آجائو اور اللہ تعالیٰ کے دفتر سے نام کٹوا کر ہمارے دفتر میں لکھواؤ۔ ایمان کا یہاں پر مظاہرہ کرنا ہے اور کہنا ہے کہ نہیں ہم نے اللہ کو اپنا پروردگار مانا ہے۔ اس لئے ہم اپنے ایمان سے ایک انج بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے ایمان کا امتحان۔ ہر دور اور ہر زمانے میں امتحان کے مختلف طریقے ہوا کرتے ہیں۔ ایک طرف بھوک پیاس نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف مال دنیا دکھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آؤ اور ہماری دعوت کو قبول کرو۔ ہم خزانوں کے منہ کھول دیں گے۔ اب فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ کا بندہ کون ہے اور دنیا کا بندہ کون ہے۔ یاد رکھنا کہ ہمارا پروردگار اگر حضرت موسیٰ مطہری اللہ کی امت کو

چالیس سال تک بغیر کسی محنت کے من وسلوئی عطا کر سکتا ہے تو وہ پروردگار ہمیں بھی رزق عطا فرماسکتا ہے۔ اس لئے ہم اس کے خزانوں پر یقین رکھتے ہیں اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے بلکہ یہ ہماری بد اعمالیاں ہیں جنہوں نے رزق کے دروازوں کو بند کیا ہوا ہے۔

## رزق کے دروازے بند ہونے کی اصل وجہ

انسانوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَ مَنْ أَخْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا (ظ: ۱۲۳) جو اللہ کی یاد سے اعراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو شک کر دیتے ہیں۔ اگر ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں تو پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی کتنی بہتات ہو گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْبَى أَمْسَأُوا وَ أَتْقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ (الاعراف: ۹۶) اگر یہ بستی دیسیوں والے ایمان لے آئے اور تقویٰ اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ لَا أَكُلُّوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ اللہ ان کو وہ نعمتیں کھلاتا جو اوپر سے اترتی ہیں اور وہ نعمتیں بھی کھلاتا جو پاؤں کے نیچے (زمیں) سے نکلتی ہیں۔

## آزمائش کو خنده پیشانی سے قبول کیجئے

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہر بندے کو آزمائیں گے تاکہ کھرے اور کھوئے کی پہچان ہو جائے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے

رہیں۔ ہم کمزور ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں لیکن اگر کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آجائے تو گھبرا نے کی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار جو بوجھ پر رکھتا ہے پھر اسے اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرمادیتا ہے۔ لا یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اللَّهُ تَعَالَى كسی کی ہمت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ کیا ہم ایک بچے کے اوپر ایک من کا بوجھ کبھی ڈالیں گے؟ نہیں ڈالیں گے نا۔ بلکہ کسی بچے کو کچھ وزن اٹھوانا بھی ہوتا پہلے دیکھیں گے کہ یہ بچہ اتنا وزن اٹھا بھی سکے گا یا نہیں۔ جب ہم جیسے لوگ بھی اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اتنا بوجھ بچے پر ڈالنا مناسب نہیں تو اللہ رب العزت بھی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ سر پر بوجھ بعد میں ڈالتے ہیں اور اسے اٹھانے کی ہمت پہلے دے دیتے ہیں۔ اس لئے اگر کوئی آزمائش آجھی جائے تو اسے خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کیجئے۔ اور دل میں کہئے

تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے  
کہ یہ تیری دی ہوئی چیز ہے  
اس لئے آزمائش پر ثابت قدم رہئے۔ یہ امتحان پہلے بھی ہوئے اور  
آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔

## سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ایمان افروز واقعہ

آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں، اسے توجہ سے سنئے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَ أَوْحَيْنَا إِلَيْ أُمَّ مُؤْمِنِي أَنْ أَرْضِعِيهُ اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ تو اپنے بچے کو دودھ پلاو۔ فَإِذَا حَفَثَ عَلَيْهِ اور اگر تمہیں اس کے بارے میں ڈر لگے کہ فرعون کے فوجی اس کو قتل نہ کر دیں تو

فَالْفِيْهِ فِي الْيَمِّ تَوَمَ اَسَے پانی میں ڈال دینا اور آگے فرمایا یا نُخْذَهُ عَذُولَیٰ وَ عَذُولَةُ اس کو جو پکڑے گا وہ میرا بھی دشمن ہو گا اور اس کا بھی دشمن ہو گا۔ اور ساتھی بھی دیتے ہیں کہ وَلَا تَغَافِي ڈرنا بھی نہیں ہے۔ وَلَا تَحْزِنْ اور غزدہ بھی نہیں ہونا۔ اَنَّا رَآدُوا لِلَّهِكَ هم اسے تیرے پاس لوٹا میں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْمَلِينَ (القصص: ۷) اور ہم نے تو اسے رسولوں میں سے بنایا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہم السلام کی ماں ایک عورت تھیں۔ وہ ذہن میں سوچ سکتی تھیں کہ اے اللہ! اگر آپ نے اس کو رسولوں میں سے بنایا ہے تو فرعون کا کوئی فوجی ادھر آہی نہ سکے، یا اے اللہ! میں اسے کسی عار میں رکھا آتی ہوں اور ادھر کوئی جاہی نہ سکے، یا میں اسے گھر کی چھت پر رکھ دیتی ہوں، تاکہ بچہ محفوظ رہے مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچے کو پانی میں ڈالنا۔ عقل کہتی ہے کہ پانی میں بچہ ڈوب جائے گا۔ اچھا، اس کو صندوق میں ڈالتی ہوں، صندوق میں ڈالے گی تو اس کے اندر پانی بھر جائے گا، اگر سارے سوراخ بند کریں تو ہوا کے اندر نہ جانے کی وجہ سے آسیجن نہیں مل سکے گی۔ جس کی وجہ سے بچہ مر جائے گا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ یا تو یہ پانی کی وجہ سے مرے گا یا ہوانہ ہونے کی وجہ سے مرے گا۔ تیرا بچہ باقی نہیں بچے گا۔ لیکن اس عورت نے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر بھروسہ کیا اور اپنے جگر گوشہ کو دریا کے اندر ڈال دیا اور واہیں آگئی۔

اللہ تعالیٰ کی شان دیکھئے کہ فرعون اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ چار سو غلام اس کے آگے بیٹھے اور اردو گرد تھے۔ انہوں نے جب صندوق کو دیکھا تو اٹھا لیا اور فرعون کے سامنے پیش کر دیا۔ جب صندوق کھولا

گیا تو اس میں بچے کو پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ الْقَيْثُ عَلَيْکَ مُحْجَّةٌ  
مِنْ اے پیارے موسیٰ ﷺ! ہم نے آپ کے چہرے پر محبت کی تجلی ڈال دی  
تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ ﷺ کے چہرہ اقدس کو زیبائی عطا کر کے  
ایسا دلکش بنادیا تھا کہ جو بھی دیکھتا وہ دل دے بیٹھتا۔ چنانچہ جیسے ہی فرعون کی  
بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی، لَا تَقْتُلُوهُمْ نے اسے قتل نہیں کرتا غصیٰ آن یَنْفَعُنَا  
اوْ نَسْخِذُهُ وَلَدًا یا یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے پیٹا بنا لیں گے۔ بیوی کی بات  
سن کر فرعون نے سوچا کہ جب ہم اسے بیٹھے کی طرح پالیں گے تو پھر یہ تو ہماری  
حکومت ہم سے نہیں چھیننے گا۔ کیونکہ ہمارا منون احسان ہو گا۔ اس نے کہا ہے  
ٹھیک ہے اس کو قتل نہیں کرتے۔ اس کی عقل نے اسے دھوکہ دے دیا۔ ہزاروں  
بچوں کو قتل کروانے والا کتنے آرام سے دھوکہ کھا رہا ہے۔

کتابوں میں لکھا ہے کہ فرعون کی بیوی نے جب یہ سناتا تو وہ خوش ہو گئی اور  
کہنے لگی فُرُثْ غَيْنِ لِیْ وَ لَكَ کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔  
فرعون نے اس کے جواب میں کہا فُرُثْ غَيْنِ لِیْ لَكَ یہ تیری آنکھوں کی  
تو ٹھنڈک ہے لا حاجةٌ لِیْ لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ روح المعانی میں  
لکھا ہے کہ جب فرعون کی بیوی نے فُرُثْ غَيْنِ لِیْ وَ لَكَ کہا تھا اس وقت اگر  
فرعون بد بخت صرف ہاں کر دیتا تو اس ہاں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی  
ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمادیتا۔

چونکہ فرعون کی بیوی (حضرت آسیہؓ) خوش ہوئی تھیں اس لئے فرعون نے  
اس خوشی کی وجہ سے پر وہاں پر موجود چار سو غلاموں کو آزاد کر دیا۔ تفسیر میں ایک  
عجیب نکتہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ ﷺ ابھی بچپن میں تھے، مگر جب وہاں پہنچے تو

چار سو غلاموں کی آزادی کا سبب بن گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس آبادی میں چلے جاتے ہیں اس آبادی کے لئے نفس اور شیطان کی غلامی سے آزادی پانے کا سبب بن جایا کرتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محل میں لے جایا گیا تو انہیں دودھ پلانے کے بارے میں فکر ہونے لگی۔ عورتوں نے انہیں دودھ پلانا چاہا مگر انہوں نے دودھ نہ پیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ أُورَهِمْ نے ان پر دوسری عورتوں کا دودھ حرام فرمادیا تھا۔ فرعون بڑا پریشان ہوا کہ بچہ دودھ نہیں پیتا۔ اس نے کہا، کچھ اور عورتوں کو بلاو۔ چنانچہ کئی عورتوں کو بلا جایا گیا۔ لیکن بچے نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا۔ فرعون اور زیادہ پریشان ہوا۔ اسی حال میں رات گزر گئی۔

ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت بھی زیادہ پریشان حال تھیں۔ وہ اور غم کے ساتھ منج کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنْ كَادَتِ لِتُبَدِّيَ بِهِ لَوْلَا أَنْ رَأَيْتُنَا عَلَى قَلْبِهَا اگر ہم اس کے دل پر گردہ نہ دے دیتے اس کے دل کو سکون نہ دے دیتے تو وہ اپنارازکھوں عیتیقی۔ یعنی وہ روپریتی اور لوگوں کو پتہ چل جاتا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو ربط قلوب عطا فرمادیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ اور اپنے بھائی کا پتہ کر کے آؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگی گئی۔ اس نے فرعون کے محل میں جا کر دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو دو دھنیں پی رہے اور فرعون بہت پریشان ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون سے کہا، هَلْ أَذْلَّكُمْ عَلَى

اَهْلِ بَيْتٍ يُكْفَلُونَهُ لَكُمْ وَّهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ۝ کیا میں تمہیں ایسے گھروالوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اس بچے کو دودھ پلا میں گے۔ وہ اس کی اچھی پرورش کریں گے اور اس کے بڑے خیرخواہ ہوں گے۔ جب اس نے یہ کہا کہ وہ اس کے بڑے خیرخواہ ہوں گے تو فرعون کو بات کھٹک گئی۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، اچھا۔ کیوں خیرخواہ ہوں گے؟ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی اس لئے نہایت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ ہم آپ کی رعایا ہیں، اگر ہم ہی خیرخواہی نہیں کریں گے تو پھر آپ کی خیرخواہی کون کرے گا؟ فرعون کہنے لگا، ہاں بات تو صحیک ہے، اچھا، جاؤ جس کو چاہو بلا کر لاؤ۔

حضرت موسیٰ ملئیلہ کی بہن دوڑتی ہوئی گھر آئی اور کہنے لگی، امی! چلیں، بھائی دودھ نہیں پی رہا۔ چنانچہ آپ کی والدہ آئیں، انہوں نے دودھ پلانا شروع کر دیا اور بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون بہت خوش ہوا کہ چلو پریشانی ختم ہو گئی۔

دو تین دن تو اس نے محل ہی میں دودھ پلایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں تو اپنے گھر میں جا کر رہوں گی۔ مجھ سے تو محل میں نہیں رہا جاتا۔ فرعون کہنے لگا، اچھا۔ پھر تم اس بچے کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ اپنے گھر جا کر تم اس کو دودھ پلاتی رہتا۔ میں نے خزانے سے تمہاری تنخواہ مقرر کر دی ہے۔ لہذا میں ہر چینے تمہاری تنخواہ بھیج دیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ فَرَدَّذْنَةً إِلَى أَقْبَهِ هُنْمَ نَتَّے اَسَے لَوَثَادِيَا اس کی ماں کے پاس مکنی تَقْرَأَ عَيْنُهَا تَاَكِرَ اس کی آنکھیں شھنڈی ہوں۔ وَلَا تَحْزَنْ اور وہ غمزدہ نہ ہو۔ وَلِعَلَّمُ اور وہ جان لے آئَ وَغَدَ اللَّهُ حَقٌْ کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔

وَلِكُنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔

## دو گنا انعام

نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حضرت موسیٰ مُخْرِیْبَتُهُم کی والدہ کی طرح اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دو گنا انعام دیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی مُخْرِیْبَتُهُم! دو گنا انعام کیسا؟ فرمایا، حضرت موسیٰ مُخْرِیْبَتُهُم کی ماں کو دیکھو کہ وہ اپنے بیٹے کو دو دھن پلاتی تھی اور اسے خزانے سے تنخواہ بھی ملا کرتی تھی۔

## ایمان کی حفاظت

ہمیں اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسہ ہونا چاہئے۔ ہم یوں ہو جائیں جیسے ہمارے پاؤں کے نیچے چٹان ہے۔ حتیٰ کہ کوئی ہمیں سولی پر چڑھا دے یا کوئی زندہ حالت میں ہمارے جسم سے کھال اتا رہے کی کوشش کرے، ہم پھر بھی دل میں ایمان کو مضبوط رکھیں۔ ہم یہ کہیں کہ تو ہمارے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے لیکن ہمارے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتا۔

## اللہ والوں کی استقامت

حضرت عمرؓ کے دورِ خلافت میں دو مسلمان کافروں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ جب کافر لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ بجائے اس کے کہ آپ ان کو قتل کریں یا کوئی اور سزادیں۔ آپ ان لوگوں کو اس طرح قائل کریں کہ یہ آپ کے دین کو اختیار کر لیں۔ کیونکہ ان کے چہروں سے ایسی

بہادری پتختی ہے کہ آپ کی فوج کے سپہ سالار بن سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کوشش کی کہ ہم کسی طرح ان کو اپنے دین کی طرف مائل کر لیں۔ پہلے انہوں نے ان کو لائق دیئے۔ لیکن جب دیکھا کہ وال نہیں گلتی تو پھر انہیں ڈرایا دھمکایا۔ حتیٰ کہ انہیں یہ کہا گیا کہ ہم تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے، بہتر یہ ہے کہ تم ہمارے دین کو قبول کرو۔ لیکن ان کا جواب یہی تھا۔ فَإِنْ قُضِيَ مَا أَنْتَ  
قَاضِ إِنَّمَا تَقْضِيُ هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا (۱۷۲: ۱) تو جو کر سکتا ہے تو اپنا زور لگا لے، تو کیا کر لے گا، یہی ہو گا کہ تیرے اس تکلیف دینے سے ہمیں موت آجائے گی۔

جب ان کی طرف سے یہ جواب سناتو وہ پہلا اٹھے اور پریشان ہوئے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ بالآخر ذریح ہو کر انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم ایک جگہ تیل گرم کرتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک کواس میں ڈالتے ہیں، شاید اس کی وجہ سے دوسرا ذریح اور ہمارے دین کو قبول کر لے۔ چلو دونوں نہیں تو ان میں سے ایک تو ہاتھ آعی جائے گا۔ چنانچہ تیل گرم کیا گیا اور ان دونوں کواس کے پاس بٹھا کر ڈرایا گیا کہ اگر تم ہماری بات کو قبول نہیں کرتے تو تمہیں اس تیل کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ جب دیکھا کہ وہ اپنی بات پر مجھے ہونے ہیں تو انہوں نے ان میں سے ایک کو اٹھا کر گرم گرم تیل میں ڈال دیا۔ ذرا تصور کیجئے کہ جب تیل گرم ہوا اور اس میں گوشت ڈالا جائے تو پھر کس طرح کباب بنتا ہے اور کیا نقشہ سامنے آتا ہے۔ ان میں سے ایک جب اس طرح کباب بن گئے تو لوگوں نے دوسرے کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ جب اسے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو نظر آئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کچھ ڈر گئے

ہیں۔ چنانچہ وہ کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ اگر تم ہماری بات مان لو گے تو ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ چلو پہلے کے ساتھ تو جو کچھ پیش آیا، وہ تو ہو گیا، اب اگر تم ہماری بات مان لو تو ہم تمہیں تیل میں نہیں ڈالیں گے۔ اس پر انہوں نے بادشاہ کو جواب دیا کہ شاید تو سمجھتا ہے کہ میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ جیسے تو نے اس کو تیل میں ڈالا ہے اسی طرح تو مجھے بھی تیل میں ڈال دے گا، ہرگز ایسا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ میری یہ ایک ہی جان ہے، جب تم مجھے ایک دفعہ تیل میں ڈالو گے تو یہ تو ختم ہو جائے گی، کاش! کہ میرے جسم کے بالوں کے برابر میری جانیں ہوتیں، تو مجھے اتنی دفعہ تیل میں ڈالتا اور میں اتنی جانوں کا نذرانہ اپنے رب کے حضور پیش کر دیتا۔

سبحان اللہ

## صنف نازک کی استقامت

اس عاجز کو 1994ء میں سرفقد جانے کا موقع ملا تو جامع مسجد کلاں سرفقد میں خطبہ جمعہ دیا۔ نماز جمعہ کے بعد چند نوجوان اس عاجز کے پاس آئے اور کہنے لگے، حضرت! آپ ہمارے گھر میں تشریف لے چلیں، ہماری والدہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ اس عاجز نے معذرت کر دی کہ اتنے لوگ یہاں موجود ہیں، میں ان کو چھوڑ کر وہاں کیسے جاؤں۔ مفتی اعظم سرفقد اس عاجز کے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ وہ کہنے لگے، حضرت! آپ ان کو انکار نہ کریں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، ان کے ہاں جانا ضرور ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ ہم دوستوں سے ملاقات کر کے چل پڑے۔

راستے میں مفتی اعظم بتانے لگتے کہ ان نوجوان لڑکوں کی والدہ ایک مجاہدہ

اور پچی مومنہ ہے۔ جب کیموزم کا انقلاب آیا تو اس وقت وہ بیس سال کی نوجوان لڑکی تھی۔ اس کے بعد اب ستر سال گزر چکے ہیں، اس طرح اس کی عمر نوے سال ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیموزم کے دور میں اتنا مضبوط ایمان دیا تھا کہ ادھر دھریت کا سیلا ب آیا اور ادھر یہ نوجوان لڑکیوں کو دین پر جمے رہنے کی تبلیغ کرتی تھی۔ ان سے گھنٹوں بحث کرتی اور ان کو کلمہ پڑھا کر ایمان پلے آتی۔ ہم پریشان ہوتے کہ اس نوجوان لڑکی کی چان بھی خطرے میں ہے اور یہ دھریے قسم کے فوجی اس کی عزت خراب کریں گے اور اسے سولی پر لٹکا دیں گے۔ لہذا ہم اسے سمجھاتے، بیٹی! تو جوان المعری ہے، تیری عزت و آبرو اور جان کا معاملہ ہے، تو اتنا کھل کر لوگوں کو اسلام کی تبلیغ نہ کیا کر۔ مگر وہ کہتی کہ میری عزت و آبرو اور جان اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ میری جان اللہ کے راستے میں قبول ہو گئی تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ لہذا یہ عورتوں کو کھلے عام تبلیغ کرتی رہتی، حتیٰ کہ سینکڑوں کی تعداد میں حورتیں دھریت سے توبہ کر کے دوبارہ مسلمان ہو گئیں۔ ہمیں اس کا ہر وقت خطرہ رہتا، سب علماء پریشان تھے کہ پڑھ نہیں اس لڑکی کا کیا بنے گا؟ پڑھ نہیں کونا دن ہو گا جب اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کو سارے لوگوں کے سامنے بے لباس کر کے ذلیل درسا کر دیا جائے گا۔ مگر یہ نہ گھبرا تی، یہ ان کو دین کی تبلیغ کرتی رہتی۔ حتیٰ کہ اس نے ستر سال تک دین کی تبلیغ کی اور یہ ہزاروں عورتوں کے ایمان لانے کا سبب بن گئی۔ اب وہ بیمار ہے، بوڈھی ہے اور چار پائی پر گلی ہوئی ہے۔ اس عورت کو آپ کے بارے میں کسی نے بتایا کہ پاکستان سے ایک عالم آئے ہیں۔ اس کا جی چاہا کہ وہ آپ سے گفتگو کرے، اس لئے میں نے کہا کہ آپ انکار نہ کریں۔

اس عاجز نے جب یہ سن تو دل بہت خوش ہوا کہ جب وہ ایسی اللہ کی نیک بندی ہے تو ہم بھی ان سے دعا کروائیں گے۔

جب ہم ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ صحن میں ان کی چار پائی پڑی ہوئی تھی اور وہ اس پر لیٹی ہوئی تھی۔ لڑکوں نے اس کے اوپر ایک پتلی چادر ڈال دی۔ ہم چار پائی سے تقریباً ایک میز دوہا کر کھڑے ہو گئے۔ اس عاجز نے جاتے ہی سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد عاجز نے عرض کیا، اماں! ہمارے لئے دعا مانگئے۔ ہم آپ کی دعا میں لینے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جب اس عاجز نے عرض کیا تو اس نے اس چادر کے اندر ہی اپنے ہاتھ اٹھائے اور بوڑھی آواز میں سب سے پہلے یہ دعا مانگی "خدا یا! ایمان سلامت رکھنا"، یقین کیجئے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس دن احساس ہوا کہ ایمان نتھی بڑی نعمت ہے کہ ستر سال تک ایمان پر محنت کرنے والی عورت اب بھی جب دعا مانگتی ہے تو پہلی بات کہتی ہے "خدا یا! ایمان سلامت رکھنا"۔

## سب سے قیمتی دولت

ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ یہ بڑی دولت ہے جو پروردگار نے ہمیں عطا کر دی ہے۔ اس لئے ہمیں اس کی حفاظت کی ہر وقت فخر رہنی چاہتے۔ ہم اس ایمان کو قیمتی سمجھیں اور اس کے مقابلہ میں کوئی بھی چیز آئے تو اس وحوسہ لگا دیں۔ ہمیں چاہئے کہ ہم اللہ رب العزت سے اس نعمت میں حفاظت مانگا کریں۔ اے اللہ! ہمیں اس نعمت کی حفاظت کی توفیق نصیر فرم۔ جان اتنی قیمتی نہیں، عزت اتنی قیمتی نہیں بلکہ ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے ہم اللہ تعالیٰ پر پکا ایمان رکھیں۔ ہمیں اللہ کے محبوب سُنَّۃ نبی نے ہو پڑھ بتایا، ہم اس

تے اوپر پکے رہیں۔ اس سے انسان اللہ رب العزت کے مقبول بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔

## ایک نوجوان کی استقامت

سرقد کے اسی سفر میں ایک عالم ایک نوجوان کو اس عاجز سے ملانے کے لئے لائے اور بتایا کہ یہ وہ خوش نصیب نوجوان ہے جو روی انقلاب کے زمانے میں پانچ مرتبہ اذان دے کر کھلے عام نمازیں پڑھتا تھا۔ یہ سن کر اس عاجز کو حیرت ہوئی اور پوچھا، وہ کیسے؟ اس نوجوان نے اپنی پیٹھ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ ہم نے دیکھا تو اس کی پیٹھ کے ایک ایک انج چکہ پر زخموں کے نشانات موجود تھے۔ اس عاجز نے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟

اس نے اپنی داستان بیان کرنا شروع کی۔ وہ کہنے لگا، جب میں نے پہلی مرتبہ اذان دی تو پولیس والے مجھے پکڑ کر لے گئے اور خوب مارا۔ میں جان بوجھ کر اس طرح بن گیا جس طرح کوئی پاگل ہوتا ہے۔ وہ جتنا زیادہ مارتے میں اتنا ہی زیادہ ہستا۔ ایک وقت میں کئی کئی پولیس والے مارتے مارتے تھک جاتے مگر میں اللہ کے نام پر مار کھاتے کھاتے نہ تھکتا۔ مجھے بھلی کے جھٹکے بھی لگائے گئے مگر میں نے برداشت کر لئے۔ مجھے کئی کئی گھنٹے برف پر لٹایا گیا، مجھے پوری پوری رات الثالث کایا گیا، مجھے گرم چیزوں سے داغا گیا، میرے ناخن کھینچے گئے مگر میں اس طرح محسوس کرواتا جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے۔ میں جان بوجھ کر پاگلوں والی حرکتیں کرتا تھا۔ پولیس والوں نے ایک سال میری پٹائی کرنے کے بعد مجھے پاگل خانے بھجوادیا۔ وہاں بھی میں نے ایک سال اسی طرح گزارا۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر نے لکھ کر دیا کہ یہ شخص پاگل ہے، اس کا ذہنی توازن خراب

ہے، یہ کسی کو تقصیان نہیں پہنچاتا، یہ اپنے آپ میں ہی مگن رہتا ہے۔ لہذا اب اس کو دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے۔ چنانچہ اس ڈاکٹر کی روپورٹ پر مجھے آزاد کر دیا گیا۔ جب میں باہر آیا تو میں نے ایک جگہ پر چھوٹی سی مسجد نما جگہ بنائی، میں وہیں دن میں پانچ مرتبہ اذانیں دیتا اور پانچ نمازیں کھلے عام پڑھا کرتا تھا۔

اس عاجز نے بڑھ کر اس کی پیشائی پر بوس دیا اور کہا

اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی  
ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد  
یہ عاجز اس نوجوان کے چہرے کو پار پار دیکھتا اور اس کی ثابت قدیمی پر  
رشک کرتا رہا۔

ازل سے رج گئی ہے سر بلندی اپنی فطرت میں  
ہمیں کتنا تو آتا ہے مگر جھکنا نہیں آتا

## صحابہ کرامؓ کے نزدیک ایمان کی قدر

اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرامؓ کو ایمان کی نعمت نصیب فرمائی تو انہوں نے اس کی قدر کی اور اس کی حفاظت کے لئے ہر وقت متکفر رہتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن ہم نے پہلے ایمان سیکھا اس کے بعد پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ میرے دوستو! وہ ایمان جو صحابہ کرامؓ نے بدروالے دن تلواروں کے سایہ کے نیچے پایا تھا آج ہم اس ایمان کو پنکھوں کی سختی ہوا کے نیچے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ کیا اس طرح ایمان مل جائے گا؟ نہیں بلکہ اس کے لئے محنت کرنا پڑتی ہے۔ دین کی خاطر جان مال اور سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے تب انسان کو ایمان کی حراثت نصیب ہوتی ہے۔

## وقت کی ایک اہم ضرورت

یاد رکھئے کہ آج کے دور میں اتنے فتنے موجود ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں احد پھاڑ جیسا ایمان ہے وہ بھی ایسے لرزائی اور ترساں نظر آتے ہیں جیسے انہیں ہر لمحے اپنے مرتد ہو جانے کا خوف ہو۔ اور عجیب بات ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ذرہ برابر ایمان ہے وہ اس کی حفاظت سے بھی غافل ہیں اور انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ ہمارے پاس کتنی بڑی دولت موجود ہے۔ اس لئے ایمان کی اہمیت کا دل میں ہونا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔

## شك سے بچنے کی ضرورت

کفار کی طرف سے اسلامی ملکوں میں جو تنظیمیں آتی ہیں وہ سب سے پہلے مسلمانوں کے دلوں میں شک پیدا کر دیتی ہیں۔ اور شک ایک الیک خطرناک اور بڑی چیز ہے جو ایمان کی بنیاد کو ہلاک کے رکھ دیتی ہے۔ اس لئے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعا مانگی اور شرک سے پہلے شک سے پناہ مانگی،

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّكْ وَالشَّرَكِ وَالشَّقَاقِ وَ  
النَّفَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ

(اے اللہ! میں شک سے، شرک سے، شقاق سے، نفاق سے اور بڑے اخلاق سے تیری پناہ چاہتا ہوں)

اس لئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذلک الکتب لا ریب فیہ کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہاں غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے لا ریب فیہ پہلے کہا اور ہذی لِلْمُتَّقِينَ ۝ (آل عمرہ ۲۰) بعد میں کہا۔ اس

لئے کہ اگر شک رہ گیا تو ہدایت نہیں پاس کو گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کفر کی تحریکیں چل رہی ہیں وہ ایمان والوں کے دلوں میں شک پیدا کر دیتی ہیں اور شک پیدا کرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔

### ایمان کے اظہار کرنے کا طریقہ

اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ کیا آپ مومن ہیں تو اسے جواب دیجئے انا مومن حقاً میں پکا مومن ہوں۔ اس لئے کہ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس میں شک والی کیا بات ہے۔ کوئی ڈھل مل بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ امام شافعیؓ نے جو یہ فرمایا ہے کہ انا مومن انشاء اللہ تو انہوں نے اپنے انجام اور خاتمے پر نظر رکھ کر بات کی ہے۔ یہ علماء کا مقام ہے جب کہ ہم عوام الناس ہیں، ہمیں ایک ہی بات کرنی چاہئے کہ انا مومن حقاً۔ اور یہ بات کرتے ہوئے پاؤں کے نیچے چٹان ہونی چاہئے۔

### مضبوط ایمان کی نشانی

امام رازیؓ نے وجود پاری تعالیٰ پر سو دلائل جمع کئے۔ ایک مرتبہ ان کی شیطان سے ملاقات ہو گئی۔ وہ شیطان سے کافی دیر مناظرہ کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے فرمایا کہ اے ابلیس! میرا اللہ تعالیٰ پر ایمان بڑا پکا ہے تو مجھے بہکا نہیں سکتا۔ ابلیس نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ یہ سامنے دیہاتی کھیت میں مل چلا رہا ہے اس کا ایمان آپ سے زیادہ پکا ہے۔ آپ نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ ابھی تماشا دیکھیں۔ چنانچہ شیطان ایک اجنبی شخص کی صورت میں اس

دیہاتی کے سامنے پہنچا اور کہنے لگا کہ خدا موجود نہیں ہے۔ اس نے دو بڑی بڑی گالیاں دیں اور پاؤں سے جوتی نکالی کہ اس کی پٹائی کرے۔ ابلیس وہاں سے بھاگا اور امام رازی سے کہنے لگا، دیکھا۔ اس کا ایمان اتنا قوی ہے کہ وہ سننا گوارا ہی نہیں کرتا کہ کوئی خدا کے وجود کا آنکار کرے۔ مرنے مارنے پر تسلی گیا۔ آپ سے میں نے بحث شروع کی آپ نے دلائل دینے شروع کئے۔ گویا یہ بات سن لی کہ خدا موجود نہیں۔ اب رہی دلائل کی بات تو میں قوی دلائل دے دوں گا تو آپ پھسل جائیں گے۔ آپ کے دل میں ذرا شک پیدا ہو گیا تو آپ ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔

## ایمان جیسے چٹان

یاد رکھنا، کہ جو چیزیں ہلکی ہوتی ہیں وہ پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہیں۔ جیسے لکڑی، گھاس، تنکے، کاغذ وغیرہ۔ کیا چنانیں بھی پانی کے ساتھ بہتی ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ پانی کے رخ کو موڑ دیا کرتی ہیں۔ میرے دوستو! آج بے راہ روی، فحاشی اور عریانی کا دریا بہہ رہا ہے، آپ چٹان بن جائیے اس کے ساتھ بہنے کی بجائے اس کے رخ کو موڑ دیجئے۔

یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو  
روک دیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو

الحمد لله، ہم مومن ہیں اس میں ہمارا کمال نہیں ہے بلکہ یہ اس کمال والے پروردگار کا کمال ہے کہ اس نے ہمیں یہ نعمت عطا کر دی ہے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم اس نعمت پر کپے ہو جائیں اور پوری زندگی اسی ایمان کی محنت پر لگا دیں، پھر دیکھنا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کسی مدد اور رحمت نصیب ہوتی ہے۔

## قلت اور کثرت کا چکر

ایمان قلت اور کثرت کو نہیں دیکھتا۔ ابھی ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ ہم بہت تھوڑے ہیں، اورے تھوڑے لوگوں کا کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مَنْ فَلَّهُ غَلِبَ فَلَّهُ كَثِيرٌ بِأَذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ (آل بقرہ ۲۳۰) جب اندر رب العزت کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو اندر رب العزت چیزوں سے بازمودا دیا کرتے ہیں۔ اس لئے تعداد اور وسائل کو نہ دیکھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو دیکھیں، جب مدد اتر آئے گی تو انشا اللہ کامیابی حاصل ہو جائے گی۔

## اسلام اور ایمان کی کیفیت میں فرق

اسلام لانے کا مطلب فرمانبرداری کے لئے تیار ہو جانا ہے۔ ایک منافق آدمی اگر ظاہراً کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو مسلمان کہا جاتا ہے لیکن درحقیقت وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ اسلام اور ایمان میں فقط کیفیت کا فرق ہے۔ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے اور ایمان کا تعلق باطن سے ہے۔ جو کوئی آدمی ریا کاری یا دھوکہ دینے کی نیت سے کلمہ پڑھے تو شرع شریف میں اس کو مسلمان سمجھا جائے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مومن نہیں ہو گا۔ جیسے کہ منافقین کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے لیکن وَ إِذَا خَلَوُ إِلَى شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ أَنَّمَا نَخْنُ مُشْتَهِرُؤُونَ ۝ (آل بقرہ: ۱۳) جب وہ اپنے شیطان دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں سے مذاق کرتے تھے۔

## منافقین کا احسان جتلانے کا واقعہ

بنو اسد نامی ایک قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کلمہ پڑھا اور حضور آم مسیح علیہم کے سامنے اپنے ایمان لانے کا احسان جتلانے لگے۔ درحقیقت وہ دل سے مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے۔ مال دنیوی کی منفعت حاصل کرنا ان کا مقصد تھا۔ لہذا وہ کہنے لگے کہ یہ دوسرے قبیلے والے آپ سے لڑائیاں لڑتے رہے اور بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن ہم لوگ بغیر لڑائی کے مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَلْ لَمْ تُوْ مُنْزَأْ لِكُنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ أَوْ رَأْبَحِي تھارے دلوں میں ایمان کامل پیدا نہیں ہوا وَ إِنْ تُطِيعُوا اللَّهُ وَ رَسُولَهُ اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول مسیح علیہم کی تو لَا يَلْتَكُمْ مِنْ أَغْمَالِكُمْ شَيْئًا وَهُنَّا کی نہ کرے گا تھارے کاموں میں کچھ بھی اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (الحجرات: ۱۲) بے شک اللہ تعالیٰ بخششے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

ان آیات پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے زبانی دعووں کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال سے اپنے آپ کو کیا ظاہر کرتے ہیں۔ زبان سے تو ہم دوسروں کو بھی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے عمل سے کتنے لوگ نصیحت پاتے ہیں۔

وَآخِرَ دُعَوَاتِنَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

دین اسلام  
حافظ

صحابہ کرام سے یہ دین تابعین نے سیکھا اور تابعین  
 سے تبع تابعین نے سیکھا۔ یہ ایک علمی تسلسل ہے۔ ہم  
 تک جو دین پہنچا ہے یہ تو اتر کے ساتھ پہنچا ہے۔ ہم  
 رات کی تاریخی میں نہیں بلکہ دن کی روشنی میں بات کر  
 رہے ہیں کہ ہمارا ایک علمی شجرہ ہے۔ یہ ایک ایسا علمی تعلق  
 ہے جو نبی اکرم ﷺ سے چلتا ہے اور ہمارے ان  
 اساتذہ تک پہنچتا ہے جن سے ہم نے دین سیکھا ہے۔

## دین اسلام کے حافظ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَّمَ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى إِمَّا بَعْدُ  
أَغْوَذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
وَالرَّبِّيَّانِيُّونَ وَالْأَخْبَارُ بِمَا اسْتَخْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا  
عَلَيْهِ شُهَدَاءُ ۝

سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصْفُونَ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَرْسَلِينَ  
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

## سعادتوں کا مخزن

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اس دنیا میں دو چیزیں لے کر آئے۔ ایک روشن  
کتاب اور دوسرا چیز روشن دل۔ ایک چمکتا ہوا دل اور دوسرا دمکتے ہوئے  
اخلاق، ایک علم کامل اور دوسرا عمل کامل۔ کائنات کی جتنی بھی سعادتیں ہیں وہ  
علم اور عمل کے اندر ہی رکھی گئی ہیں۔

## انحطاط کا دور

آج کا دور علم اور عمل کے انحطاط کا دور ہے۔ ہماری نوجوان نسل علمی طور  
پر اور عملی طور پر دین سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ہر آنے والا دن یہ فاسطے  
بڑھاتا جا رہا ہے۔ یہ ہم سب کے لئے لمحہ فکر یہ ہے۔

## صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی گواہی

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ رب العزت کی طرف سے جو دین لے کر آئے

آپ ﷺ نے اس کو ثیک ٹھیک صحابہ کرام ﷺ تک پہنچا دیا۔ حتیٰ کہ جب جنہیں الوداع کے موقع پر صحابہ کرام ﷺ کے مجمع سے گواہی مانگی تو ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ ﷺ نے تصدیق کی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے اللہ! گواہ ہو جائیے۔ اے اللہ! گواہ ہو جائیے۔

## نبی اکرم ﷺ کے علم و عمل کے محافظ

صحابہ کرام ﷺ نے محبوب ﷺ سے اس دین کو سیکھا اور اس کو عملی جامہ پہنایا۔ وہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم و عمل دونوں کے محافظ بنے۔ انہوں نے دین کو اپنے دماغ میں بھی محفوظ کیا اور اپنے اعضاء و جوارح میں عمل کی شکل میں بھی محفوظ کیا۔ گویا علم سینوں میں بھی محفوظ ہوا اور سفینوں میں بھی محفوظ ہوا۔

صحابہ کرام ﷺ کی جماعت نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ادائیں کی محافظتی۔ وہ عشق کا مجمع تھا، اللہ تعالیٰ کی چینی ہوئی جماعت تھی۔ وہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جو کچھ کرتے دیکھتے تھے وہ خود بھی اسی طرح کرتے تھے۔ ان کو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نیوں سنتوں پر عمل کرنے کا اس حد تک شوق ہوتا تھا کہ ان کی چال ڈھال اور گفتار رفتار ہر چیز نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مبارک طریقے کے مطابق ہوتی تھی۔ باہر ملکوں سے تجربہ کار اور جہاں دیدہ قسم کے لوگ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ملنے کیلئے آتے تھے اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام محفل میں تشریف فرماتے تھے مگر سب لوگ اپنے ظاہراً اعمال و افعال، گفتار و رفتار اور شخصیت میں اس قدر ایک جیسے ہوتے تھے کہ ان کو پوچھتا پڑتا تھا کہ آپ میں سے اللہ کے نبی ﷺ کون ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ نقل اصل کے اتنا

قریب ہو چکی تھی اور تابع اپنے متبع کے اتنا قریب ہو چکے تھے کہ دونوں کے درمیان فاصلے سمٹ چکے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کو پہچان نہیں ہوتی تھی۔

## آقا اور غلام میں حیران کن ممااثت

ہجرت کے موقع پر جب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر رض مدینہ طیبہ جاتے ہیں تو وہاں کے دید و دانش رکھنے والے لوگ دونوں حضرات کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ پہچان نہیں کر पاتے کہ ان میں آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ کیونکہ وہ دونوں ظاہری رفتار و گفتار اور کردار میں ایک جیسے نظر آ رہے تھے۔ حتیٰ کہ مدینے کے لوگ آگے بڑھ کر سیدنا حضرت صدیق اکبر رض سے مصافحہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بھی مصافحہ کرتے رہے کیونکہ انہوں نے سوچا کہ محبوب ﷺ اس وقت تھکے ہوئے ہیں اس لئے ان کو مزید نہ تھکنا پڑے۔ پھر جب سورج نکلا اور اس کی کرنوں نے نبی ﷺ کے رخسار مبارک کے بوئے لئے تب وہ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ جس کو وہ اللہ کا نبی سمجھ کر مصافحہ کرتے رہے وہ اٹھے اور انہوں نے اپنی چادر اپنے محبوب ﷺ کے سر مبارک کے اوپر تان دی۔ تب پڑھ چلا کہ آقا کون تھا اور غلام کون تھا۔

## حضرت عبد اللہ بن عمر رض اور اتباع سنت

ایک مرتبہ حضرت عبد اللہ بن عمر رض حج کے سفر پر چلے۔ راتستے میں انہوں نے اپنی سواری کو ایک جگہ پر رکا، نیچے اتے اور دیرانے میں ایک طرف کو اس طرح گئے جیسے کوئی آدمی قضاۓ حاجت کے لئے جاتا ہے، پھر ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ لگتا یوں تھا کہ فراغت حاصل کرنے کے لئے بیٹھے ہیں، مگر وہ فارغ

نہیں ہوئے بلکہ ایسے ہی واپس آگئے اور اونٹ پر بیٹھ کر آگے چل پڑے۔ ساتھیوں نے پوچھا، حضرت آپ کے اس عمل کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑا ہے حالانکہ آپ کو فراغت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ فرمائے لگئے کہ میں اس لئے نہیں رکا تھا کہ مجھے ضرورت تھی۔ بلکہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ اسی راستے سے سفر کیا تھا۔ اسی جگہ پر میرے محبوب ﷺ رکے تھے اور آپ ﷺ نے اس جگہ پر جا کر قضاۓ حاجت سے فراغت حاصل کی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں بھی محبوب ﷺ کے اس عمل کے مطابق اپنا عمل کروں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ نبی علیہ السلام کی ادائیں کے کتنے محفوظ تھے۔ وہ جو کچھ بھی محبوب ﷺ کی زبان سے سنتے تھے یا ان کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے۔ اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔

## فرمان نبوی ﷺ کا لحاظ

مسجد نبوی ﷺ کا ایک دروازہ تھا۔ جہاں سے اکثر عورتیں آیا کرتی تھیں اور جب عورتیں نہیں ہوتی تھیں تو کبھی کبھی مرد بھی اس دروازے سے آ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کتنا اچھا ہوتا کہ اس دروازے کو عورتوں کے لئے چھوڑ دیا جاتا۔ یہ سن کر مردوں نے اس دروازے سے آتا چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان الفاظ کو سنبھل کے بعد پوری زندگی میں کبھی بھی اس دروازے سے مسجد نبوی ﷺ میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، ان کا ایک ایک کام نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ادائیں کا مظہر ہوا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایسا عشق عطا فرمایا تھا کہ ان کو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہر ہر بات یاد رہتی تھی۔

انہوں نے اپنے دماغوں میں بھی اس علم کو یاد رکھا اور اپنے جسم کے اعضاء پر بھی اس علم پر عمل کے ذریعے سے یادیں تازہ رکھیں۔

## ایک جبشی صحابی رضی اللہ عنہ اور انتباع سنت

ایک صحابی رضی اللہ عنہ جبشی کے رہنے والے تھے۔ وہ جب بھی نہا کر نکلتے تو ان کا جی چاہتا تھا کہ میں بھی اپنے سر میں اسی طرح درمیان میں مانگ نکالوں جس طرح نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نکالا کرے ہیں۔ لیکن جبشی نژاد ہونے کی وجہ سے ان کے بال گھنگھریاں، چھوٹی اور سخت تھے اس لئے ان کی مانگ نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ اس بات کو سوچ کر بڑے اداس سے رہتے تھے کہ میرے سر کو میرے محبوب صلوات اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر کے ساتھ مشا بہت نہیں ہے۔ ایک دن چولہا جل رہا تھا۔ انہوں نے لو ہے کی ایک سلاخ لے کر اس آگ میں گرم کی اور اپنے سر کے درمیان میں اس سلاخ کو پھیر لیا۔ گرم سلاخ کے پھرنے سے ان کے بال بھی جلنے اور جلد بھی جلی۔ اس سے زخم بن گیا۔ جب زخم درست ہوا تو ان کو اپنے سر کے درمیان میں ایک لکیر نظر آتی تھی۔ لوگوں نے کہا، تم نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ وہ فرمانے لگے کہ میں نے تکلیف تو برداشت کر لی ہے لیکن مجھے اس بات کی اب بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرے سر کو اب محبوب صلوات اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر کے ساتھ مشا بہت نصیب ہو گئی ہے۔

## ہمارا علمی شجرہ

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ دین تابعین نے سیکھا اور تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا۔ یہ ایک علمی تسلسل ہے۔ ہم تک جو دین پہنچا ہے یہ تو اتر کے ساتھ پہنچا

ہے۔ ہم رات کی تاریکی میں نہیں بلکہ دن کی روشنی میں بات کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک علمی شجرہ ہے۔ یہ ایک ایسا علمی تعلق ہے جو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے چلتا ہے اور ہمارے ان اساتذہ تک پہنچتا ہے جن سے ہم نے دین سیکھا ہے۔

## علمائے کرام کا فرض منصبی

اللَّهُ رَبُّ الْعِزَّةِ نے دینِ مطین کی حفاظت کی ذمہ داری امت کے علماء اور مشائخ کے کندھوں پر ڈال دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَ الرَّبُّ أَنِيْوْنَ وَ الْأَحْبَارُ رَبُّ وَالْيَعْنَى اللَّهُ وَالْأَهْمَارُ وَ الْأَحْبَارُ حِسْرَ کی جمع ہے۔ جس کا معنی ہے علماء یعنی عالم باللہ اور عالم بكتاب اللہ۔ ان کا فرض منصبی کیا ہے بِمَا اسْتَخْفِفُوا مِنْ كِتْبِ اللَّهِ وَ كَانُوا عَلَيْهِ شَهِداً (المائدہ: ۳۳)۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی کتاب کی حفاظت کرنی ہے۔ چنانچہ جسے دریا کے مل کے اوپر چوکیاں بنی ہوئی ہیں اور وہ پولیس اس کی حفاظت کرتی ہے اسی طرح ان علماء نے قرآن پاک کی ہر آیت پر ڈیرے ڈالے ہیں، جھگیاں بنائی ہیں اور تن من دھن کی بازی لگا کر ان کی حفاظت کی ہے۔

علمائے کرام کسی آدمی کو نہ تو کسی بھی آیت کی ظاہری حالت میں تبدیلی کرنے کی اجازت دیں گے اور نہ ہی اس کے معانی غلط لینے کی اجازت دیں گے۔ اگر کوئی ایسی ناپاک جسارت کرے گا تو یہ احقاق حق اور ابطال باطل کر کے دکھائیں گے۔ یہ ان علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اور والوں سے علم سیکھیں اور آنے والوں تک پہنچائیں۔ اسی طرح یہ دین اس امت میں چلتا رہا ہے۔ الحمد للہ اس علمی تسلسل کا ایک بہت بڑا پس منظر ہے۔

## نوجوان نسل

مدارس میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ آج کی کوئی نئی اختراع نہیں ہے۔ یہ انہی اکابرین سے سیکھی ہوئی باقی ہیں جو آنے والی نسلوں کو پڑھائی جاتی ہیں۔ اس لئے ہر موسم پر دو طرح کی ذمہ داریاں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک تو خود دین سیکھنا اور دوسرا اپنی آنے والی نسل کو دین سکھانا۔ لیکن الیہ یہ ہے کہ آج یہ امت اپنی نوجوان نسل کو فرنگی تہذیب کی بھٹی میں جھوک چکی ہے۔ آپ صبح کے وقت دیکھتے ہوں گے کہ سینکڑوں بچے اور بچیاں شفاقتہ اور تروتازہ چہروں کے ساتھ سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جا رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کتنے فیصد طلباء ایسے ہوتے ہیں جو مدارس میں تفسیر یا حدیث کا علم سیکھنے کے لئے جا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی نسبت بھی نہیں بنتی۔ ہم اپنی اولادوں کو انگریزی تعلیم کیوں دلواتے ہیں؟ اس لئے کہ یہ ضرورت زندگی ہے اور ہم نے ان کو دینی تعلیم کیوں دلوانی ہے؟ اس لئے کہ یہ مقصد زندگی ہے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ضرورت زندگی کے لئے پوری قوم اپنے بچوں کو روزانہ باقاعدگی کے ساتھ بھیجتی ہے اور بچوں کو مقصد زندگی سکھانے کے لئے کبھی توجہ ہی نہیں دیتے۔ دنیاوی تعلیم تو ہر گھر کے بچے سکولوں کالجوں، گرامر سکولوں، انگلش سکولوں اور سائنس کالجز میں باقاعدگی سے حاصل کرتے ہیں لیکن باقاعدہ دینی تعلیم نہیں سیکھے پا رہے۔

ہماری نوجوان نسل کا دین سنا سنا یا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ سنئے دین کی جڑیں گہری نہیں ہوتیں۔ ان کو اگر کوئی زیادہ باتونی بندہ مل جائے گا تو وہ ان کا رخ پھیر دے گا۔ اسی وجہ سے نوجوان وہ فتنوں میں الجھ جاتے ہیں اور ہمیشہ

ہی تذبذب کا شکار رہتے ہیں۔ یہ آفت ان پر اس لئے آن پڑتی ہے کہ انہوں نے دین باقاعدہ سیکھا نہیں ہوتا۔

انہوں نے دیں کہاں سیکھا بھلا جا جا کے مکتب میں پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں

لوگ دین دنیا برابر برابر کا نعرہ تو لگادیتے ہیں لیکن عملی طور پر پوری اولاد کو دنیا کی تعلیم سکھا رہے ہوتے ہیں۔ دینی تعلیم کے لئے بچپن میں ناظرہ قرآن پاک پڑھانے کو کافی سمجھتے ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی۔ اس طرز عمل کا نتیجہ انتہائی ناگفته بہ نکلتا ہے۔

## بی اے پاس لڑکی کی زبوں حاصل

ہمارے جامعہ میں ایک لڑکی آئی۔ اس وقت اس کی عمر بائیس سال تھی۔ وہ بی اے کر چکی تھی۔ اس نے جامعہ کی پنپل صاحبہ سے کہا کہ میری امی میری شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں آپ کے پاس اس لئے آئی ہوں کہ آپ مجھے غسل کے سائل سمجھا دیں۔ انہوں نے پوچھا، کہ آپ تو تقریباً پندرہ سال کی عمر میں جوان ہوئی ہوں گی؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ پندرہ سال کی عمر سے لے کر اب تک آپ ہر مہینے غسل بھی کرتی ہوں گی۔ اس نے کہا، نہیں میں باقاعدہ غسل تو نہیں کیا کرتی تھی۔ بس جیسے دوسرے نہاتے تھے دیسے ہی میں بھی نہایتی تھی۔ مجھے تو یہ نہیں پڑتا تھا کہ غسل بھی کرنا ہوتا ہے۔ اب اس نوجوان لڑکی کے نو سال جونا پاکی میں گزرے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی اور تلاوت بھی کی ہوگی۔ لیکن جب غسل ہی ٹھیک نہیں تھا تو یہ گناہ کس کو ہوا ہوگا؟ یقیناً اس کے ماں باپ کو ہوا ہوگا۔

## ماں باپ کے خلاف مقدمہ

اس لئے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اپنی اولاد کے سامنے عملی نمونہ بن کر دکھائیں اور انہیں بھی دین سکھنے پر لگائیں۔ اگر دین سکھنے پر انہیں لگائیں گے تو وہ قیامت کے دن ہم پر مقدمہ دائر کر دیں گے قرآن عظیم الشان گواہی دیتا ہے کہ روز محشر جب ان بچوں کو عذاب کے لئے بھیجا جائے گا تو وہ کہیں گے زَيْنَا إِنَّا أَطْعَنَا مَادَتَنَا وَ كُبَرَ آءَ نَا فَاضْلُونَا السَّبِيلُ<sup>۱۵</sup> اے پروردگار! ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی..... مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں ماں باپ کی طرف اشارہ ہے۔ بیٹی کہے گیا کہ ابے پروردگار! میرے ماں باپ نے کہا تھا کہ بیٹی! کمپیوٹر کے کورس کر لو، میں بن گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، بیٹی! تم اب ایم لیڈی ڈاکٹر بن کے دکھادو، میں بن گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، بیٹی! اے کرچکی ہولہدا اب ایم ایڈ بھی کر کے دکھادو، میں نے کر لیا تھا۔ اے اللہ! انہوں نے جو لائن دی تھی ہم نے وہ پوری کر کے دکھائی۔ اگر یہ دنیا کے علوم کی لائن دے سکتے تھے تو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ بیٹی! تم قرآن پاک ترجیح کے ساتھ پڑھ کے دکھاؤ، تم نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث کا علم حاصل کر کے دکھاؤ۔ اے اللہ! اگر وہ ہمیں یہ کہتے تو ہم کر کے دکھاتے۔ انہوں نے ہی ہمیں راستے سے بھٹکا دیا تھا۔ زَيْنَا إِنَّهُمْ ضَغَفِينَ مِنَ الْعَذَابِ اے اللہ! ان کو دو گناہ عذاب دیجئے۔ وَ لَعْنُهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا (الاحزاب: ۶۸) اور اے اللہ! ان پر لعنتوں کی بارش بر سادیجئے۔ کیونکہ وہ خود بھی ڈوبے تھے اور ہمیں بھی لے ڈوبے تھے۔ اب بتائیے کہ جب اولاد کہہ رہی ہو گی کہ اے اللہ! ہمارے ماں باپ کو دو گناہ عذاب دیجئے اور ان پر لعنتوں کی بارش بر سادیجئے تو پھر ہماری

نماز میں کس کام آئیں گی۔ اس لئے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین خود بھی سیکھیں اور اپنی آنے والی نسلوں تک دین کو پہنچائیں۔

## حافظتِ دین کی اصل وجہ

ہر دور میں دین پر بڑے حملے ہوئے کبھی کفار کی طرف سے اور کبھی اندر کے منافقین کی طرف سے۔ لیکن جہاں سے بھی حملہ ہوا علماء کی جماعت نے ان تمام سوراخوں کو بند کر دیا۔ انہوں نے جانی اور مالی قربانی دے کر دین کی حفاظت فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج چودہ سو سال کا طویل عرصہ گذرنے کے بعد بھی دین اپنی اصلی حالت میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ یہ دین ہم تک حلوے کھا کر نہیں پہنچا بلکہ قربانیوں کے ذریعے پہنچا ہے۔

## نبی اکرم ﷺ کی ولداری

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ کرام تک جو دین پہنچایا اس میں محبوب ﷺ کو کتنی قربانی دینی پڑی۔ ذرا ساتا میں کھول کے دیکھ لیجئے۔ ہمارے آقا ﷺ کو راتوں کو نیند ہی نہیں آتی تھی۔ سینہ گھٹتا محسوس ہوتا تھا اور خود اللہ رب العزت ان کو تسلیاں دیتے تھے۔ فرماتے تھے۔ وَ اصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَغْيُثْنَا محبوب ﷺ! آپ صبر فرمائیجئے۔ آپ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ وَ لَرِبِّكَ فَاصْبِرْ اپنے رب کے لئے آپ صبر کر لیجئے، وَ اصْبِرْ وَ مَا صَبَرْ كَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۝ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الْذِينَ اتَّقُوا وَ الَّذِينَ هُمْ مُّحْسِنُونَ ۝ (آل عمران: ۱۲۷، ۱۲۸) کیونکہ اللہ رب العزت کے محبوب ﷺ کی حالت یہ ہوتی تھی کہ راتوں کو رو تے رہتے تھے

اور مبارک آنسوؤں کی لڑیاں موتیوں کی طرح نیچے گرتی چلی جاتی تھیں۔ نہ صرف یہی بلکہ لمبے لمبے بجدے فرمایا کرتے تھے۔

## ابو جہل کو دعوتِ اسلام

کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب ﷺ ابو جہل کے گھر تین ہزار مرتبہ چل کر تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ بارش اور طوفان تھا، لوگ ڈر کے مارے گھروں میں دبکے پڑے تھے۔ ابو جہل کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک سن کر ابو جہل نے اپنی بیوی سے کہا، لگتا ہے کہ آج کوئی بڑا ہی ضرورت منداں برے موسم میں ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اچھا پتہ کرتا ہوں کہ کون ہے؟ میں اس کا سوال پورا کر دوں گا۔ ابو جہل باہر نکلا تو دیکھا کہ اللہ کے محبوب ﷺ کھڑے تھے۔ اس نے پوچھا، آپ اس وقت میں آئے !!! اللہ کے محبوب ﷺ فرمانے لگے کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل کو اب دین کے لئے موم کر دیا ہو۔

## صبر کی انتہاء

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام مکہ مکرمہ کے بازار میں سے گزر رہے تھے۔ چند نوجوانوں نے اللہ کے محبوب ﷺ کو دیکھا اور کہا، اچھا۔ یہی وہ آدمی ہیں جو ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے محبوب ﷺ کو گھیر لیا۔ ان میں سے کسی بد بخت نے آپ ﷺ کے عمامہ مبارک کو کھینچا، کسی شقی القلب نے آپ ﷺ کے موئے مبارک کو کھینچا، کسی نے کپڑے کو کھینچا۔ انہوں نے اللہ کے محبوب ﷺ کو بہت پریشان کیا، مکہ کے ان کمینوں میں

سے ایک کمینے نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چہرہ انور پر تھوک دیا۔ اس کو دیکھ کر دوسرا نے تھوکا، حتیٰ کہ سب کمینوں نے تھوکا۔ انہوں نے اسی پر بس نہ کی بلکہ ان میں ایک بدجنت نے مٹی لے کر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چہرہ انور پر پھینک دی۔ جس کی وجہ سے واضھی والے چہرہ انور پر کچھ سا بن گیا۔ اتنا پریشان کرنے کے بعد جب وہ تھک گئے تو وہ کہنے لگے، اچھا ہم دوبارہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ ہمارے لات و منات کو کیسے برا کہتے ہیں۔

یہ کہہ کر وہ خبیث چلے گئے۔ جب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بڑی صائز ادی سیدہ زینبؼ کو پتہ چلا تو وہ پیالے میں پانی لے کر آئیں۔ جب انہوں نے ابا حضور کے چہرہ انور پر کچھ بنا ہوا دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کو تسلی دی اور فرمایا، بیٹی! آپ رونہیں، جس دین کو تیرا باپ لے کر آیا ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہ ہر کچھ اور کچے مکان میں پہنچ کر رہے گا۔

## بیٹی ہوتوا لیکی.....!!!

اللہ کے محبوب ﷺ فاقہ برداشت فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہراءؑ اپنے گھر میں کھانا کھارہی تھیں۔ انہیں کوئی خیال آیا اور آدمی روٹی لپیٹ کر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کے لئے تشریف لائیں۔ اللہ کے محبوب ﷺ سے ملیں۔ آپ ﷺ نے پوچھا، بیٹی فاطمہ! کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے محبوب ﷺ! میں نے روٹیاں پکائی تھیں، سب کے حصے میں ایک ایک روٹی آئی تھی، جب میں روٹی کھانے لگی تو میرے دل میں خیال آیا، فاطمہ! تو خود تو کھارہی ہے، پتہ نہیں کہ تیرے والد گرامی کو کچھ

کھانے کو ملا ہو گایا نہیں۔ لہذا میں نے آدمی روٹی کھائی ہے اور بقیہ آدمی روٹی آپ کو بدیہ کے طور پر پیش کرنے کے لئے حاضر ہوئی ہوں۔ سبحان اللہ! ایسی بیٹی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے روٹی کے اس آدمی ہے حصے کو لیا اور اور ایک تکڑا اپنے مبارک منہ میں ڈال کر فرمایا، فاطمہ! مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ، قدرت میں محمد ﷺ کی جان ہے، تین دن سے میرے منہ میں روٹی کا کوئی تکڑا نہیں گیا۔ اللہ اکبر! اللہ کے محبوب ﷺ نے یوں مشقتوں سے دین پہنچایا۔

### حضرت بلاں پر ظلم و ستم

صحابہ کرام گو بھی بے حد تکلیفیں دی گئیں۔ حضرت بلاں گو کتنی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ سخت گرمی کے موسم میں تپتی ریت پر لٹا کر اوپر چٹان رکھ دی جاتی تھی۔ مگر اتنے ظلم و ستم کے باوجود بھی احد احمد کہتے تھے۔

### سیدہ زینہ پر ظلم و ستم

سیدہ زینہؓ کو بڑھاپے کی حالت میں اتنا مارا گیا کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ ابو جہل نے کہا، دیکھا! لات اور منات نے تمہاری بینائی کو چھین لیا۔ سیدہ زینہؓ نے پہلے تو اس تکلیف کو برداشت کر لیا تھا لیکن جب ابو جہل نے کہا کہ لات نے تمہاری بینائی کو چھین لیا تو پھر تو پھر کرو نے لگ گئیں۔

وہ رو تے رو تے کمرے میں چلی گئیں اور بجدے میں سر ڈال کر پروردگار عالم سے فریاد کرنے لگیں کہ پروردگار! انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میری بینائی زائل ہو گئی۔ میں نے آپ کی خاطر ہر تکلیف کو برداشت کر لیا، اب یہ مجھے طعنہ

دے رہے ہیں کہ لات نے تیری بینائی کو لاٹل کر دیا ہے۔ اے مالک! جب بینائی نہیں تھی تو بھی آپ نے ہی دی تھی اور جب تھی تو آپ نے ہی واپس لی تھی۔ میرے مولا! میری بینائی واپس عطا فرمادیجئے۔ ابھی انہوں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بینائی دوبارہ عطا فرمادی۔ سبحان اللہ

## وشمنان دین کے سامنے سیسیسہ پلائی دیواریں

یہ دین نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے صحابہ کرام تک پہنچا اور صحابہ کرام سے آگے ہم تک پہنچا۔ یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ ہر دور اور ہر زمانے میں چلتا رہا۔ وقت کے باوشاہوں اور مفاد پرست لوگوں نے اس دین کے خزانے پر ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس کو اپنی من مرضی کے مطابق موزنے کی کوشش کی کہ یہ دین ہماری خواہشات کا مجموعہ بن جائے، مگر اللہ رب العزت ان علمائے کرام کو جزاۓ خیر دیں جو ان کے سامنے چنان بن کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم تمہیں دین کے احکام میں رد و بدل کرنے کی اجازت دیں۔ اس مشن میں انہیں بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑیں۔

## حضرت سعید بن جبیرؓ کی استقامت

ایسا بھی ہوا کہ جماعت بن یوسف کے سامنے حضرت سعید بن جبیرؓ کھڑے ہیں۔ جوچ کہتا ہے کہ میں ابھی تمہیں فنا فی النار کرتا ہوں۔ مگر استقامت کے پہاڑ سعید بن جبیرؓ کہتے ہیں کہ میں تھجے دوزخ اور جنت کا مالک نہیں سمجھتا۔ جی ہاں وہ ایسے تھے جو نذر ہو کر جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہتے تھے۔

## امام اعظم ابوحنیفہ پر ظلم و ستم

امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ بیتل کے اندر سے نکلا۔ ان کو دی گئی۔ کیونکہ حکام دیکھ رہے تھے کہ ان کے شاگردوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا انہیں خدشہ تھا کہ کہیں وہ ہمارے لئے Threat (خطرہ) نہ بن جائیں۔

## امام مالک کی جرأت

امام مالک سے فتوی پوچھا گیا انہوں نے حکام کی مرضی کے مطابق فتوی نہ دیا۔ ان کو سزا کے طور پر گدھے پر بٹھایا گیا اور ان کے چہرے پر سیاہی مل دی گئی۔ پھر وقت کے حاکم نے حکم دے دیا کہ انہیں مدینہ میں پھراو۔ لہذا مدینہ منورہ کے امام اور فقیہہ کے چہرے کو سیاہ کر دیا کیا اور گدھے پر بٹھ کر پھرا گیا۔ اب حضرت امام مالک کی جرأت دیکھنے کا فرمانے لگے، لوگوں اتم میں سے جو پہچانتا ہے کہ میں امام مالک ہوں وہ تو پہچانتا ہے اور جو نہیں پہچانتا ہو بھی سن لے میں انس کا بینا مالک ہوں۔ ولا یحافون لومۃ لانم دین کے معاملے میں انہوں نے ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہ کی۔

## امام احمد بن حنبل پر ظلم و ستم

امام احمد بن حنبل کو مسندِ حق قرآن میں ایسے سخت کوزے لگائے گئے کہ وہ کوزے باقی کو بھی لگائے جاتے تو وہ بھی بلبا اٹھت۔ ان کے جسم پر جہاں کوزے لگے وہاں کا گوشت مردہ ہو گیا۔ اس گوشت کو پیچی ساتھ کاٹ

کرو ہاں مرہم لگایا گیا۔ وہ دین کی حفاظت کے لئے یوں استقامت کے ساتھ ڈالنے رہے۔

## چراغِ ایمان کی صوفشانی

دین کو مٹانے کے لئے کفر کی آتی آندھیاں چلیں مگر اللہ رب العزت نے پھر بھی ایمان کے چراغ کو جلانے رکھا۔

شکستہ دل سے جو آہ نکلے تو فرش کیا عرش کا نپ اٹھئے گا در قفس جو دا نہ ہو گا تو ایک دن ٹوٹ کر رہے گا کسی کے روکے سے حق کا پیغام کب رکا ہے جواب رکے گا چراغِ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے جلا کرے گا انگریز کے دور میں مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں تھے۔ علماء نے چنائیوں پہ بیٹھ کر زندگی گزار دی۔ محترم جماعت! انسان اپنی غربت تو برداشت کر لیتا ہے مگر اولاد کی غربت کو دیکھنا بہت مشکل ہے .... مگر ان علماء نے خود بھی چنائیوں پر زندگی گزار دی اور اپنی اولادوں کو بھی اسی طرح مشقتوں سے نمٹنے کے لئے ذہنی طور پر تیار یا، گویا ان کے لئے بھی انہی چنائیوں کو پسند کیا۔ یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ انہوں نے قدم قدم پر عوامِ الناس کو بتایا کہ ہم اس دین کو سینے سے لگائے رکھیں۔

## بر صغیر میں فرنگیوں کے ظلم و ستم کی انتہاء

جب 1857ء کی جنگ آزادی انگریز نے جیتی تو اس نے مسلمانوں کے گرد شکنجه کس دیا۔ انہوں نے مصرین کو بلوایا اور ان سے کہا کہ تحریک کر کے

ہمیں بتاؤ کہ مسلمانوں کی تحریکیں کیسے ختم کریں۔ ان مبصرین نے تجزیہ کر کے تین باتیں بتائیں اور کہا کہ اگر تم یہ تین کام کرو تو مسلمانوں کی تحریک ختم ہو جائے گی۔

(۱) مسلمانوں سے قرآن چھین لو

(۲) علماء کو ختم کر دو۔

(۳) عوام الناس کو انگریزی تعلیم اس انداز سے دو کہ انہیں اپنے رنگ میں رنگ لو۔

چنانچہ انگریز نے سب سے پہلے قرآن مجید کے لاکھوں نسخے ضبط کر لئے۔ پھر انہوں نے علماء کے لئے باقاعدہ تحریک چلائی۔ اور چودہ ہزار علماء کو پھانسی دی۔ ”انگریز کے باغی مسلمان“ کتاب میں لکھا ہے کہ دہلی سے لے کر پشاور تک جیٹی روڑ کے اردو گارڈ پیپل اور بڑے بڑے درختوں کے اوپر پھندایا گیا۔ علماء کو ان پر پھانسی دی جاتی اور ان کی لاشوں کو لٹکنے دیا جاتا۔ کوئی اتارنے والا نہیں ہوتا تھا۔ کئی کئی دنوں تک لاشیں لٹکتی رہتی تھیں تاکہ عوام الناس کے دلوں میں یہ خوف بیٹھ جائے کہ ہم جو مرضی بنیں مگر عالم نہیں بنیں گے۔

بادشاہی مسجد کے دروازے پر پھانسی کا پھندایا گیا۔ ڈیوٹی بدلت کر علماء کو کیسے بعد ویگرے چوبیں گھنٹے پھانسی دی جاتی تھی۔ ایک عالم کو لٹکایا جاتا، جب تک اس کی لاش پھٹکتی رہتی اس وقت تک لوگ متعدد یکجتنے رہتے۔ جب اس کی لاش ٹھنڈی ہو جاتی تو پھر دوسرے عالم کو لٹکایا جاتا۔

باغ (آزاد کشمیر) میں منگ کے علاقے میں اب بھی ایک ایسا درخت موجود ہے جس پر دو حضرات میزعلی اور رملی کو لٹکا کر ان کے زندہ جسم سے کھال

اتاری گئی تھی۔ اس عاجز کو بعض علماء نے جا کر وہ درخت دکھایا بھی ہے۔

## ایک پر شد دسفر

مولانا جعفر تھائیریؒ اپنی کتاب ”تاریخ کالا پانی“ میں لکھتے ہیں کہ ہمارا علماء کا ایک قافلہ تھا۔ انگریز نے اس قافلے کو دہلی سے لاہور بھیجا۔ مگر جس انگریز نے دہلی سے لاہور بھیجا اس نے ہمیں فقط چھکڑیاں لگائیں لہذا ہم بڑے اطمینان سے اللہ اللہ کرتے ہوئے دہلی سے لاہور پہنچ گئے۔ لیکن لاہور جیل کا اپنچارج بہت بھی جابر اور مشدد قسم کا آدمی تھا۔ اس نے کہا، یہ مولوی آرام کے ساتھ سفر کر کے یہاں آگئے!!! اب میں ان کو سبق سکھاؤں گا کہ یہ ہمارے ساتھ کیسے خداری کرتے ہیں اور ہمارے نمک حرام بنتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ریل گاڑی کے اندر چھوٹے چھوٹے کیمین بنوانے اور ہر کیمین میں چاروں طرف کیل لگوائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کی جگہ کے چاروں طرف ایک ایک دو دو انج کے فاصلے پر کیل لگے ہوئے تھے۔ ان کیمینوں میں ہمیں بٹھایا گیا۔ جب ریل گاڑی چلتی اور چچھے جھٹکا لگتا تو ہمارے جسم پر چچھے کیل چچھے جاتے۔ جب دائیں طرف جھٹکا لگتا تو دائیں طرف کیل چچھے جاتے۔ چلتی ہوئی گاڑی پر ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بریک لگنی ہے یا نہیں۔ جب یک دم بریک لگتی تو ہمارے ان زخموں پر پھر کیل چھپتے۔ فرماتے ہیں کہ وہیں پسینہ بھی نکلا اور خون بھی بہتا۔ سو بھی نہیں سکتے تھے۔ ہمیں انہوں نے لاہور سے ملٹان بھیجننا تھا۔ یہ تکلیف دہ سفر ایک ماہ میں طے ہوا۔ اور ہم پورا مہینہ دن کبھی بیٹھنے رہتے اور رات کو بھی بیٹھنے رہتے۔ اسی جگہ پر ہمارا پیشاب پاخانہ بھی نکل جاتا تھا۔ مگر ہمارے لئے پانی

وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا جس کی وجہ سے بدبو بھی بہت زیادہ تھی۔ اتنی سخت سزا اس لئے دی کہ ہم تنگ آ کر کہہ دیں کہ جی آپ جو کچھ کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں۔ مگر قربان جائیں ان کی عظمتوں پر کہ انہوں نے یہ تکلیف تو برداشت کر لی مگر انہوں نے فرنگی کی بات کو ماننا پسند نہ کیا۔

فرماتے ہیں کہ ایک مہینہ کے اتنے پر مشقت سفر کے بعد جب ہم ملتان پہنچے تو وہاں پر موجود حاکم نے کہا کہ ان لوگوں کو ہم کل پھانسی کے پھندے پر لڑکا دیں گے۔ جب ہم نے پھانسی کی خبر سنی تو ہمارے دل خوش ہوئے کہ اب ہمیں اپنا مقصود نصیب ہو جائے گا۔

اگلے دن وہ جب ہمیں پھانسی دینے کے لئے آیا تو اس نے دیکھا کہ ہمارے چہروں پر رونق تھی۔ کیونکہ تھکاوٹ ختم ہو چکی تھی۔ ہمارے ترددتازہ چہروں کی رعنائی دیکھ کر وہ کہنے لگا، او ملاو! تمہارے چہرے پر مجھے تازگی کیوں نظر آ رہی ہے؟ ہم میں سے ایک نے جواب دیا کہ ہمارے چہرنے اس لئے ترددتازہ ہیں کہ آپ ہمیں پھانسی دیں گے تو ہمیں شہادت نصیب ہو جائے گی۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ وہیں سے واپس اپنے دفتر چلا گیا اور اس نے اپنی بڑی احترامیز سے رابطہ کیا اور بتایا کہ یہ تو خوش ہیں کہ ان کو پھانسی دے دی جائے۔

چنانچہ اس نے واپس آ کر اعلان کیا کہ او ملاو! تم خوش ہو کر موت مانگتے ہو لیکن ہم تمہیں موت بھی نہیں دینا چاہتے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں کالا پانی بھیج دیا جائے۔ اس جگہ پر پہنچ کر مولا ناجعفر تھانسیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا۔ فرماتے ہیں:

مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا  
کیا کہوں کیسے براہی ہوتے ہوتے رہ گئی

## ایک صبر آزمالمح

فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بڑی قربانی کا وقت وہ آیا جب وہ ہمیں کالا پانی بھیج رہے تھے اس وقت انہوں نے منصوبہ بندی کے تحت ہمارے بیٹوں، بیٹیوں، بیویوں اور باقی چھوٹے بڑوں کو بلوالیا اور ہمیں زنجروں میں باندھ کر اور بیڑیاں پہننا کر ان کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا کہ تم انہیں منالو، اگر یہ کہہ دیں کہ ہم فرنگی کے خدار نہیں ہیں تو ہم انہیں ابھی تمہارے ساتھ گھر بھیج دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اب بیوی بھی رورہی تھی، بیٹی بھی رورہی تھی، میرا ایک چھوٹا بیٹا بھی رورہا تھا اور میرے ساتھ لپٹ کر کہہ رہا تھا کہ ابو! آپ یہ کہہ کیوں نہیں دیتے، بس آپ کہہ کر ہمارے ساتھ گھر چلیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے لئے اس سے بڑا صبر آزمالمح کوئی نہیں تھا۔ جب میرا بیٹا بہت زیادہ رویا تو میں نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا کہ بچے کو سینے سے لگاؤ اور اس بچے سے کہا، بیٹا! اگر زندگی رہی تو تمہارا باپ تمہیں دنیا میں آ کر ملے گا اور اگر نہ رہی تو پھر قیامت کے دن حوض کوثر پر ہماری ملاقات ہوگی۔

میں سلام کرتا ہوں ان علماء کی عظمت کو، میں سلام کرتا ہوں ان کی استقامت کو جنہوں نے اس قدر قربانیاں دے کر دین کی کشتی کو بحر ظلمات کے بھنوں سے محفوظ رکھا اور الحمد للہ ہمارے پاس آج یہ دین محفوظ حالت میں موجود ہے۔

## تعلیم نسوان کی اہمیت

آج نوجوان نسل کو دین پہنچانے کا سب سے بہترین طریقہ اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم دلوانا ہے۔ یہ عاجز ذمہ داری سے کہتا ہے کہ اگر کسی بندے کے دونوں پچھوں، ایک بیٹا ہوا اور ایک بیٹی ہوا اور اس کے وسائل اتنے ہوں کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو پڑھا سکتا ہو تو اس کو چاہئے کہ بیٹی کو دین کی تعلیم پہلے دلوائے، اس لئے کہ

”مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا“

جب ایک بچی دین کی تعلیم حاصل کر لیتی ہے تو پھر پورے گھر کے ماحول پر اس کا اثر ہوا کرتا ہے۔

## لڑکوں کے بگاڑ کی وجہ

آج چونکہ گھروں میں عورتوں میں دینی تعلیم کی کمی ہوتی ہے اس لئے بچے بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کا باپ بیٹیوں کو آنکھ دکھا کر گھر کا پابند بنالیتا ہے مگر اپنے بیٹوں پر اس کا کوئی حکم نہیں چلتا۔ جس گھر کو بھی دیکھیں لڑکے باپ کے نافرمان نظر آئیں گے۔ پھر روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ پڑھ سکے، نہ نوکریاں کرتے ہیں نہ بات مانتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو دین نہیں پڑھایا گیا۔

## تعلیم نسوان میں ایک بڑی رکاوٹ

آج اگر مدارس میں پڑھنے کے لئے بیٹیاں تیار ہوتی ہیں تو ماں باپ

رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ یونیورسٹی کے ہائل میں ان کو اکیلا رکھتے ہیں حالانکہ وہاں کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہاں اس کا کیا معاملہ بنے گا۔ اس کے برعکس پہبیز گاری کے ماحول میں جہاں عورتیں پڑھاتی ہیں وہاں بیٹی کو لانے کے لئے رکاوٹیں ڈالتے ہیں کہ جی لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹی کو مدرسے بھیجتے ہیں۔ یہ فقط اپنے اندر کا روگ ہوتا ہے۔ شیطان ایسا کام نہیں کرنے دیتا۔

### وراثت نبوی ﷺ کی حفاظت

ہمیں چاہئے کہ ہم اس وقت یہ نیت کر لیں کہ اپنی اولادوں کو باقاعدہ دین کی تعلیم دلوائیں گے۔ اس سے ہم نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس لائی ہوئی نعمت کی حفاظت میں شریک ہو جائیں گے جس کی خاطر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے مبارک آنسو بھائے تھے۔ اور جس کی خاطر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مبارک خون بھا۔ اس نعمت کی حفاظت کی وجہ سے ہم بھی قیامت کے دن سرخرو ہو جائیں گے۔

### مسلمانوں کی کمزوری

ہم نہ صرف اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم دلائیں بلکہ ان کو دین آگے پہنچانے کی بھی تعلیم دیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بدء الاسلام غریباً و سیعود غریباً اسلام ابتداء میں بھی بے یار و مددگار تھا اور قرب قیامت میں یہ ایک بار پھر بے یار و مددگار ہو جائے گا۔ لوگ اس کا یہ معنی سمجھ لیتے ہیں کہ اسلام کمزور ہو جائے گا۔ نہیں نہیں اسلام کمزور نہیں ہے بلکہ اسلام آج بھی اتنا

ہی طاقتوں ہے مگر مسلمان کمزور ہیں..... جو اسلام کا روشناروشنہ ہے وہ دراصل اپنی مسلمانی کا روشناروشنہ ہے .. اسلام یقیناً اسی طرح مضبوط اور محفوظ ہے جیسے صحابہؓ کے دور میں محفوظ تھا۔ آج الحمد للہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، تبھی ہے، حدیث بھی ہے، اور ہر چیز محفوظ بھی ہے۔ لیکن آج یہ چیزیں بے یار و مددگار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزی تعلیم کی سرپرستی کے لئے نیچے سے اوپر تک حکومتی لوگ سب تیار ہیں، لیکن مدارس کے لئے کوئی پلانگ نہیں۔ اب بتائیے کہ دین بے یار و مددگار ہو چکا ہے یا نہیں۔ مسلمانوں کے اپنے گھروں میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مبارک سنتوں کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس پر دکھ کھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بیٹا اگر کسی مضمون میں فیل ہو جائے تو باپ اس کو گمر سے نکالنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور اگر وہی بیٹا سنت نہیں رکھتا یا فرض نماز نہیں پڑھتا یا مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے نہیں جاتا تو باپ اس کو گمر سے نہیں نکالے گا۔ جو بیٹا کما کر لاتا ہے، حلال یا حرام، وہ ماں باپ کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے۔ آج ہماری یہ حالت ہے۔ اس لئے ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے خود بھی دین پیکھیں اور دوسروں کو بھی دین پیکھنے کی ترغیب دیں۔

## حافظت دین کے قلعے

یہ جامعات آج کے دور میں دین کی حفاظت کے قلعے ہیں، بچوں کے ہیں یا بچیوں کے، ان جامعات سے رابطہ رکھئے اور دینی تعلیم پانے کے لئے اپنی اولادوں کو بھیجنے۔ ان کی ہر طرح سے معاونت کیجئے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یہا اللذین آمنوا إِنَّمَا تُنْصَرُوا إِنَّ اللَّهَ يُنْصُرُكُمْ وَيُبَشِّرُ أَلْفَادَ مُكْمَنْ اے ایمان والو! اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے

قدموں کو جو دے گا۔ کیا مطلب؟ معاذ اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے خزانے کو چورا اور  
ڈاکو پڑ گئے ہیں جو مدد کی ضرورت پڑی نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر تم  
اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جو  
دے گا۔ آج ہر بندہ اللہ کی مدد کو اترتے محسوس نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس لئے کہ  
ہم دین کی مدد نہیں کر رہے۔ اگر یہ دین کی مدد کرتے تو قرآن کہتا ہے کہ و  
یَسْبَّثُ أَفْلَامُكُمْ كہ وہ تمہارے قدموں کو زمین میں جمادیتے۔ تو ہمارے لئے  
دین دنیا کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم خود بھی دیندار نہیں اور اپنے بچوں کو بھی  
دیندار بنانے کی کوشش کریں۔

اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے اور اس کے بدے  
ہمیں اپنے بخشش کئے ہوئے گناہگاروں میں شامل فرمائے۔ (آمین ثم آمین)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين .



استقامتی

فضیلت



کچھ چیزیں وزن میں اتنی بلکی ہوتی ہیں کہ وہ پانی  
کے ساتھ بہہ جاتی ہیں مثلاً کاغذ، لکڑی اور گھاس  
پھوس وغیرہ۔ لیکن کچھ چٹانیں ہوتی ہیں جو پانی  
کے ساتھ بہتی نہیں ہیں بلکہ وہ پانی کا رخ موڑ دیتی  
ہیں۔ ہم مومن ہیں اس لئے ہم گھاس پھوس اور  
تنکے نہ بنیں بلکہ ہم چٹان بن جائیں اور بہتے  
ہوئے پانی کا رخ پھیر دیں۔

## استقامت کی فضیلت

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى إِنَّمَا بَعْدَهُ  
 أَغْوَذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 إِنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا رَبَّنَا اللَّهَ ثُمَّ أَسْتَقَامُوا تَسْرِئُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا  
 تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشِرُوا بِالْجُنَاحَةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَذُونَ ۝  
 نَحْنُ أَوْلَيُوكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا  
 تَشَهِّي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ۝  
 سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصْفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ  
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

## شریعت پر چلنے میں تین رکاوٹیں

شریعت و سنت کے راستے پر چلتے ہوئے انسان کو تین قسم کی رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ سب سے پہلے نفس کی طرف سے رکاوٹ ہوتی ہے۔ شرس چاہتا ہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو۔ جس طرح چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے کہ میری ہر بات پوری ہوئی چاہئے اسی طرح انسان کا نفس بھی ہر کام میں ضد کرتا ہے کہ میری چاہت پوری ہوئی چاہئے۔

دوسری رکاوٹ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ بھی نیکی کے راستے سے ہٹا کر انسان کو گناہ کے راستے پر لگاتا ہے۔ وہ روزے انکا تا ہے اور گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ چنانچہ وہ رشوت لینے والے کے دل میں

ذالتا ہے کہ تم یہ رشوت اپنے لئے تو نہیں لے رہے، آخر یہوی بچوں کا پیٹ پالنا بھی تو فرض ہے، گویا اس کے سامنے وہ گناہ کو ہلاک کر کے پیش کرتا ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے مگر وہ انسان کے ذہن میں یہ بات ذالتا ہے کہ تو نے مصلحتا جھوٹ بولا ہے۔ یہیں سے آدمی کی ”مصلحتا“، جھوٹ بولنے کی عادت بن جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا نام ”جھوٹوں کے دفتر“، میں لکھوا دیتے ہیں۔ شیطان کے گر ہر بندے کی مناسبت سے ہوتے ہیں۔ دنیادار کے لئے اس کی مناسبت سے اور دیندار کے لئے اس کی مناسبت سے۔ امام غزالی ”فرماتے ہیں کہ شیطان ایک ایسا اثمن ہے جو نہ تو رشوت قبول کرتا ہے اور نہ ہی کوئی سفارش قبول کرتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ شیطان کو رشوت دے دیں اور وہ آپ کی جان چھوڑ جائے یا آپ تھوڑی دری کے لئے اس کی خوشامد کر لیں اور وہ کہے کہ اچھا، آج کے بعد میں آپ کو شنگ نہیں کروں گا۔

تیری رکاوٹ انسانوں کی طرف سے آتی ہے۔ کبھی رشتہ دار دین کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ کسی کی شخصیت یا اس کی شکل، صورت اچھی لگی اور وہ دل میں بس گیا۔ اب سارا دن اسی کی سوچیں غالب رہتی ہیں۔ روگ پالا ہوتا ہے اور دن رات اسی خیال میں مر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو خواہشات نفسانی کی وجہ سے بھائی بنایا مگر وہ قصاصی ہوتا ہے۔ کبھی اہل خانہ دین کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ کئی نوجوان چاہتے ہیں کہ ہم سنت کے مطابق اپنا چہرہ بنائیں مگر ان کی بیوی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کئی ماں باپ نہیں چاہتے کہ گھر میں ٹی وی ہو لیکن بچے ٹی وی نکالنے ہی نہیں دیتے۔ یہ انسان گونظاً ہر

میں بہت ہی قدمی ہوتے ہیں، جگرے مکڑے ہوتے ہیں، آنکھوں کی شفہذک ہوتے ہیں مگر حقیقت میں وہ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ شریعت کے خلاف عمل پر آمادہ کر رہے ہوتے ہیں۔

ان تینوں رکاوٹوں کو دور کر کے شریعت پر عمل کرتے رہنے کا نام ”مجاہدہ“ ہے۔ یہ مجاہدہ مومن کو ساری زندگی کرنا پڑتا ہے۔

### استقامت کا مفہوم

”استقامت“ مطلب ہے ”کسی بات پر ڈٹ جانا، جنم جانا، بھرپور جانا“ اللہ رب العزت کو استقامت بہت زیادہ پسند ہے۔ استقامت تو یہ ہو گئی کہ مسجد میں پیشہ کر تو بہ کی، پھر مسجد کے باہر قدم رکھا تو بھلے بازار میں ششکیں اور صورتیں نظر آ رہی ہوں مگر وہ ان کی طرف دھیان ہی نہ دے اور سوچ کہ میں نے اب سچی پکی توبہ کر لی ہے اس لئے میری آنکھاں کسی نامحرم کی طرف نہیں اٹھے گی۔ اسی طرح ارادہ کر لیا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اب ہر مصلحت کو ایک طرف رکھ دے اور جھوٹ نہ بولے۔ شیطان کہتا ہے کہ مصلحت ہے، جھوٹ بولو گے تو فائدہ ہو گا جب کہ جن کا وعدہ یہ ہے کہ سچ بولو گے تو فائدہ ہو گا۔

### مشائخ کے ساتھ نسبت کی برکت

آنچہ اس استقامت کی کمی ہے۔ سالکین اکثر اپنے حالات سناتے ہیں کہ توبہ تو کرتے ہیں مگر وہ توبہ چند دن بھی ساتھ نہیں دیتی۔ بار بار توبہ نوٹی رہتی ہے۔ یہ بھی ایک اچھی علامت ہے کہ بار بار توبہ تو کرتے ہیں۔ یہ مشائخ کے ساتھ نسبت کی برکت ہوتی ہے کہ بار بار توبہ کرنے کی توفیق ملتی رہتی ہے۔

کیونکہ چنگاری اندر ہی اندر سلگ رہی ہوتی ہے، انہیں گناہ میں سکون نہیں ملتا، ان کا ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں برا کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی شاخ ہری ہے۔ جس طرح زمین میں لگا ہوا پودا ہرا ہوتا امید ہوتی ہے کہ اس کی کوٹلیں پھوٹ آئیں گی، بالکل اسی طرح جس کا رابطہ اپنے مشائخ کے ساتھ پکا ہوا س کی شاخ ہری ہوتی ہے۔ اس پر کسی وقت بھی کوپل پھوٹ سکتی ہے، استقامت کی زندگی گزارنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی مدعا اترتی ہے۔ یاد رکھیں کہ جس آدمی میں استقامت نہیں ہوتی وہ اللہ کی نظر میں مردود ہوتا ہے۔

## درخت کے ساتھ ایک عجیب مکالمہ

ایک مرتبہ حضرت سری سقطیؒ جا رہے تھے، وہ پھر کا وقت تھا، انہیں نیند آئی۔ وہ قیولہ کی نیت سے ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ کچھ دیر لینے کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ اس درخت میں سے آواز آ رہی تھی جس کے نیچے وہ لینے ہوئے تھے۔ جیسا ہاں، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ایسے واقعات رونما کر دیتے ہیں۔ درخت انہیں کہہ رہا تھا، یا سری! کن مثلی، اے سری! تو میرے جیسا ہو جا۔ وہ یہ آوازن کر بڑے حیران ہوئے۔ جب پتہ چلا کہ یہ آواز درخت سے آ رہی ہے تو آپ نے اس درخت سے پوچھا، کیف اکون مثلک کا اے درخت! میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ درخت نے جواب دیا، ان الذین یہ مونتی بالاحجار فارمیهم بالاثمار اے سری! جو لوگ مجھ پر پھر پھینکتے ہیں میں ان لوگوں کی طرف اپنے پھل لوٹاتا ہوں۔ اس لئے تو بھی میرے جیسا بن

جا۔ وہ اس کی یہ بات سن کر اور بھی زیادہ حیران ہوئے۔ مگر اللہ والوں کو فراست ملی ہوتی ہے لہذا ان کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ اگر یہ درخت اتنا ہی اچھا ہے کہ جو اسے پھر مارے، یہ اسے پھل دیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے درخت کی لکڑی کو آگ کی غذا کیوں بنایا؟ لہذا انہوں نے پوچھا کہ اے درخت! اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو فكيف مصیر ک الی النار؟ یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ کی غذا کیوں بنادیا؟ اس پر درخت نے جواب دیا، اے سری! میرے اندر خوبی بھی بہت بڑی ہے مگر اس کے ساتھ ہی ایک خامی بھی بہت بڑی ہے۔ اس خامی نے میری اتنی بڑی خوبی پر پانی پھیردیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو میری وہ خامی اتنی ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ کی غذا بنادیا۔ میری خامی یہ ہے کہ فاملیت بالہوا ہکذا ہکذا جدھر کی ہوا چلتی ہے میں ادھر کو ہی ڈول جاتا ہوں، یعنی میرے اندر استقامت نہیں ہے۔

## نبی اکرم ﷺ کو استقامت کا حکم

کئی لوگ تو اس بات کے مصدقہ ہوتے ہیں

چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی

وہ بیچارے رسم درواج کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے استقامت کی زندگی گزاریں۔ شریعت ہمیں اسی چیز کا حکم دیتی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا رَبَّنَا اللَّهَ وَهُوَ أَكْرَمُهُمْ لَمَّا كَفَرُوا (حُمَّاجِدَه ۳۰) پھر وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے ثُمَّ اسْتَقَامُوا (حُمَّاجِدَه ۳۰) پھر وہ اس بات پر جنم گئے۔ نہ صرف یہی بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَ مَنْ تَابَ مَعَكَ آپ اس بات

پڑھت جائیے جس کا آپ کو حکم دی، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے  
میں وہ بھی ڈھنڈ جائیں۔

## قرآن اور عزت

جو بندہ استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل پیرا ہونے کے  
لئے ڈھنڈ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پشت پناہی فرماتے ہیں۔ قرآن عظیم  
الشان ہماری عزتوں اور غلبے کے لئے دنیا میں بھیجی گیا ہے۔ لہذا جو فرد قرآن  
مجید پر عمل کرے گا وہ فرد عزت میں پائے گا اور جو جماعت اس پر عمل کرے گی وہ  
جماعت عزت میں پائے گی۔

## صحابہ کرام ﷺ اور اسباب

صحابہ کرام ﷺ کے پاس اسباب میں سے بہت ہی معمولی چیزیں پاس  
ہوتی تھیں۔ مگر کتنی عجیب بات ہے کہ وہ دشمن کے ساتھ لڑنے کے لئے تیار  
کھڑے ہوتے تھے۔ پورے لشکر کے پاس دلوواریں تھیں، کچھ ایسے بھی تھے  
جن کے ہاتھوں میں درختوں کی ٹھینیاں تھیں۔ صاحبہ کرام ﷺ فرماتے ہیں کہ بدر  
کے میدان میں جب ہم نے کفار کے نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ لوہے میں ڈوبے  
ہوئے تھے تو ہمیں یوں محسوس ہوا کہ ہمیں تو موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا  
ہے۔ **كَانُوا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ** (الانفال ۶۰) لیکن اللہ  
تعالیٰ نے صاحبہ کرام ﷺ کے حوصلے پست نہ کئے بلکہ استقامت کے ساتھ لڑنے  
کی توفیق عطا فرمائی۔

## صحابہ کرام ﷺ کی آزمائش

اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام ﷺ کو بہت زیادہ آزمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام ﷺ کی آزمائش پہلی امتوں کی آزمائشوں سے بہت زیادہ تھی۔ اسی لئے پھر ان کو انعام بھی پہلی امتوں کی نسبت زیادہ ملا۔ عام دستور بھی یہی ہے کہ جب پھر سخت ہوتا ہے تو پھر انعام بھی بڑا ہوتا ہے۔ پہلی امتوں پر جو آزمائش آئیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو اتنا آزمایا گیا کہ **فَسْتَهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضُّرَاءُ وَزِلْزَلُوا** حتیٰ یقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ أَفْنُوا مَعْنَى نَصْرِ اللَّهِ (البقرہ: ۲۱۳) ان پر تنگ دستی اور پریشانی اتنی آئی اور اتنا جنگجوی اگیا کہ اللہ کے رسول ﷺ اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے وہ سب پکارا ٹھیک کہ اللہ کی مدحکب آئے گی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ **أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ** جان لو کہ اللہ کی مدحقریب ہے۔ یعنی ان کو اتنا آزمایا گیا کہ ان کے لئے **زِلْزَلُوا** کا الفاظ استعمال کیا گیا۔

ایک آزمائش صحابہ کرام ﷺ پر بھی آئی اس آزمائش کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنوں پر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ **زِلْزَلُوا** **زِلْزَلًا شَدِيدًا**۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام ﷺ کی آزمائش پہلی امتوں کی آزمائش کی نسبت زیادہ تھی۔ کیونکہ ان کے لئے ایک لفظ **زلزلوا** استعمال کیا گیا مگر صحابہ کرام ﷺ کے لئے تین الفاظ استعمال کئے گئے چونکہ صحابہ کرام ﷺ کا امتحان بھی بڑا تھا اس لئے ان کو انعام بھی بڑا ملا۔

## گرتے وقت تھامنے والی ذات

استقامت کے ساتھ شریعت مطہرہ یہ عمل کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ کپسے

مد فرماتے ہیں؟ اسے ایک مثال سے سمجھئے۔ ایک چھوٹے سے بچے کو والد کھڑا کر کے کہتا ہے کہ میئے! میرے پاس آئیے۔ والد کو پتہ ہے کہ یہ کمزور ہے اور کم عمر ہے۔ اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ گر جائے گا۔ لہذا والد تیار ہوتا ہے کہ اگر یہ قدم اٹھائے گا اور میری طرف آنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو گرنے نہیں دوں گا۔ اس نے جب بچہ قدم اٹھاتا ہے اور گرنے لگتا ہے تو والد اس کو فوراً اٹھا کر سینے سے لگایتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت بھی بندے کو اپنی طرف بلاتے ہیں کہ شریعت کے راستے پر چلتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس راستے میں تین رکاوٹیں بھی ہیں اور ان رکاوٹوں کی وجہ سے بندہ گر بھی سکتا ہے لیکن اگر یہ میری طرف آنے کی نیت تھیک کر لے گا اور پھر نیک نیتی کے ساتھ قدم اٹھائے گا تو پھر میں اس بندے کو گرنے نہیں دوں گا بلکہ گرنے سے پہلے پہلے اپنے اس بندے کو اپنا وصل عطا فرمادوں گا۔

### استقامت کے سامنے پہاڑ کی حیثیت

ہمارا کام نیک نیتی کے ساتھ شریعت کے راستے پر قدم اٹھاتا ہے۔ اگر ہمارے راستے میں رکاوٹوں کے پہاڑ بھی آئیں گے تو اللہ رب العزت ان پہاڑوں کو بھی ہٹا دیں گے۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا، اسے کہا گیا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں نکلاو اور تمہیں جو چیز سب سے پہلے نظر آئے اور اگر تم اسے کھا لو تو تمہیں بڑے درجات مل جائیں گے۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اس کی نیت کر لی۔ لہذا جب وہ صبح انہ کر شہر سے باہر نکلا تو اس کی پہلی نظر پہاڑ پر پڑی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں پہاڑ کو تو نہیں کھا سکتا لیکن خواب میں شرط یہ تھی کہ جو چیز پہلی دفعہ نظر آئے اگر اس کو کھاؤ گے تو تمہیں بڑے درجات

ملیں گے۔ کبھی تو اس کے دل میں خیال آتا کہ میں پہاڑ کو کھا ہی نہیں سکتا۔ لہذا مجھے آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور کبھی خیال آتا کہ نہیں، جانا میرا کام ہے، اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ چنانچہ وہ آدمی چلتا رہا، چلتا رہا لیکن اللہ کی شان کہ وہ جیسے جیسے پہاڑ کی طرف قدم اٹھاتا رہا ہر قدم پر پہاڑ چھوٹا ہوتا گیا حتیٰ کہ جب یہ شخص قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہاں گڑ کی ایک چھوٹی سی ڈلی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اسے اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ تو استقامت کے ساتھ قدم اٹھانے پر اللہ تعالیٰ پہاڑ کو بھی گڑ کی ڈلی ہنادیتے ہیں۔

### صحابہ کرام ﷺ کی فتوحات کا راز

صحابہ کرام ﷺ کے دلوں میں یہ بات اتر چکی تھی کہ رکاوٹوں کو دور کرنے والی ذات ہمارے ساتھ ہے اس لئے وہ رکاوٹوں کو رکاوٹیں ہی نہیں سمجھا کرتے تھے۔ ان کا کام بس اللہ کے راستے میں قدم اٹھانا ہوتا تھا۔ اسی لئے ان کو پھر کامیابیاں بھی ملتی تھیں۔

بات کیا تھی کہ نہ قیصر و سرسنگی سے دبے  
چند وہ لوگ کہ اوٹوں کو چھانے والے  
جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ  
بن گئے دنیا کی تقدیر بدلتے والے  
اس لئے کہ ان کو اللہ کے وعدوں پر پورا یقین تھا

مثل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے  
پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکٹھ جاتے تھے  
اسی استقامت کی وجہ سے فتوحات کے دروازے کھلے اور اللہ تعالیٰ نے

ان کو فاتح عالم بنادیا تھا۔

## اللہ تعالیٰ کی مدد آنے کی نشانی

میرے دوستو! آج بھی وہی قرآن ہے اور وہی اندکا فرمان ہے۔ اگر ہم شریعت پر استقامت کی زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ کفار کی یہ گیدڑ بھیکیاں ہمارا بال بھی بیکانہیں کر سکتیں۔ جب اللہ رب العزت کی مدد کسی پڑے میں آتی ہے تو پھر اس پڑے کو پوری دنیا سے بھاری بنادیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے آنے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی مدد آتی ہے تو پھر کشتی کو دریا کی لہروں کے بے رحم تھیزوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دیتے بلکہ اس کشتی کو کنارے لگادیتے ہیں۔ لہذا ایمان والوں کو چاہئے کہ عضواً علیہ بالتواجز کے مصداق شریعت کے راستے پر ڈٹ جائیں اور اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ اس کو تھام لیں۔ لوگ کہیں گے کہ بھوکے مر جاؤ گے، آپ ان سے کہیں کہ ہر گز نہیں، ہمیں رزق دینے والا بھی اللہ ہے اور مدد دینے والا بھی اللہ ہے، اگر پوری دنیا کے کفار بھی اکٹھے ہو کر آ جائیں تو وہ ہمارا بال بھی بیکانہیں کر سکتے۔ کیونکہ مارنے والوں سے بچانے والا بڑا ہے۔

## غزوہ احزاب میں کفار کی رسوانی

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مبارک زمانے میں غزوہ احزاب میں بھی ایسی ہوا۔ مکہ والے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لئے چلنے اور راستے میں جو قبیلہ ملتا اسے ساتھ لے لیتے۔ اسے کہتے کہ ہمارے ساتھ چلو، اگر نہیں چلو گے تو

پھر ہم تم سے بھی جنگ کریں گے۔ اس لئے لوگ ذر کی وجہ سے ساتھ چل پڑتے۔ اس طرح بہت سے قبائل ان کے ستحمل گئے۔ ادھر جب مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودیوں نے سنا تو وہ مسلمانوں کی خواہ خواہ خیر خواہی کے لئے انہیں آ کر مشورے دیتے کہ ائمّا النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لِكُمْ فَاخْشُوْهُمْ (آل عمران ۳۷۳) لوگ تمہارے لئے جمع ہو کر آ رہے ہیں یعنی علمی برادری جمع ہو کر آ رہی ہے، کچھ سوچ لو ورنہ وہ تمہارا نام و نشان تک مٹا دیں گے اور تمہارے لئے زمین ٹنگ کر دیں گے۔ مگر صحابہ کرام ہی نے جب سنا تو پریشان ہونے کی بجائے ان کے ایمان بڑھ گئے۔ قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے کہ و ما زادُهُمْ أَلَا إِيمَانًا وَ تَسْلِيْمًا (آلہ زاب: ۲۲)

کفار مکہ نے آ کر صحابہ کرام کا گھیرا و کر لیا۔ حتیٰ کہ ایک مہینہ تک گھیرا و رکھا۔ ان کے دلوں میں غمیض و غضب کی یہ حالت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو کچھ چیز جائیں۔ جیسے آج بھی کافر کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے غمیض و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت بھی وہ اسی طرح غمیض و غضب لے کر آئے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ التدرب العزت قرآن پاک میں یہ بڑے عجیب انداز میں فرماتے ہیں ردُ اللّٰهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغِيْضِهِمْ (آلہ زاب: ۲۵) اور اللہ نے ان کا فردوس کو ان کے غمیض و غضب کے ساتھ ناکام واپس لوٹا دیا۔ لِمَ يَنَالُوا خَيْرًا ان کے پلے نہیں گا بھی نہیں آیا۔

## ایمان کی جانچ پڑتال کا وقت

ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنے دشمنوں کو نہیں جانتے مگر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَاءِكُمْ

(النساء: ۲۵) اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو جانتے ہیں۔ ہمیں کیا پتہ کہ کون ظاہر میں ہمارا دوست بن رہا ہے اور اندر اندر سے ہماری جڑیں کاٹ رہا ہے اور ہمیں ہی چاروں طرف سے گھیر رہا ہے۔ اس آیت کے ساتھ ہی ایک خوشخبری سنادی، فرمایا، وَلَنْ يُجْعَلَ اللَّهُ لِكُفَّارِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء: ۱۳۱) اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں تک پہنچنے کا راستہ ہرگز نہیں دیں گے۔ جیسے بچے کو کوئی مار رہا ہو اور اوپر سے اس کا باپ آجائے تو وہ کہتا ہے کہ پہلے مجھ سے بات کرو، پھر بچے کو ہاتھ لگانا۔ اللہ تعالیٰ بھی یہاں یہی فرم رہے ہیں کہ اے ایمان والو! تمہارا دشمن پہلے مجھ سے بات کرے گا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم ادھر جاؤ گے تو میری لاش سے گزر کر جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے میں تمہارا مقابلہ کروں گا، پھر تمہارا قدم آگے بڑھ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ کافر تمہاری طرف آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے تک پہنچنے کا راستہ ہرگز نہیں عطا کریں گے۔ توجہ اللہ تعالیٰ ہمیں تسلیاں دے رہے ہیں تو پھر ہمیں گھبرا نے کیا ضرورت ہے۔ یہی تو ایمان کی جانچ پڑتاں کا وقت ہوتا ہے۔ جو کمزور یقین والے ہوتے ہیں وہ کفار کی گیدڑ بھیکیوں سے ڈر جاتے ہیں اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے سیسے پلاں ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب مجاہدین کے لئے ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَا  
كَانُهُمْ بُنَيَانٌ مَرْضُوقٌ (القمر: ۲) اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں ایسے قال کرتے ہیں جیسے سیسے پلاں ہوئی دیوار ہوتی ہے۔

## حضرت خالد بن ولیدؓ کی جوانمردی

صحابہ کرامؓ کی زندگیوں کے حالات پڑھ کر حیرانی ہوتی ہے ان کی جوانمردی پر عش عش کرائھنے کو دل کرتا ہے۔ ایک مرتبہ مشورہ ہونے لگا کہ تنے اتنے کافروں کے مقابلہ میں کتنے مسلمانوں کو جانا چاہئے۔ کسی نے کہا، ستر چھ جائیں، کسی نے کہا، چالیس چھے جائیں۔ کسی نے کہا، دس چھے جائیں۔ حضرت خالد بن ولیدؓ بھی بیٹھے تھے۔ جب ان سے پوچھا کیا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اسکیلے کو بھیج دیں۔ یہ سن کر کسی نے کہا، خالد! اس بات سے تو تکبر کی بوآتی ہے۔ وہ فرمانے لگے، ہرگز نہیں کیونکہ میری مثال باز کی سی ہے اور کافروں کی مثال ایسے ہے جیسے جاں میں پھنسنے ہوئے پرندوں کی سی ہوتی ہے۔ اب پھنسی ہوئی چڑیاں باز کا کیا بگاڑ سکتی ہیں؟ پھر وہ فرمانے لگے کہ کافر مردہ ہے اور مومن زندہ ہے، اس لئے لاکھوں مردے مل کر بھی ایک زندہ آدمی کا پچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ واقعی ان پر ایسی مدد اتری کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرمایا۔

## ”فتح الشام“ کا مقام

علامہ واقدی کی ایک کتاب کا نام ”فتح الشام“ ہے۔ اب تو اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ آج کل کے ہر نوجوان کو یہ کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں صحابہ کرام کے ایسے عظیم الشان واقعات بیان کئے گئے ہیں کہ ان کو پڑھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ ایمان کا پتہ چل جاتا ہے کہ ایمان کہتے کس کو ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی مدد کے واقعات پڑھ کر اللہ کے وعدوں پر

انسان کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے۔ حیران ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان حضرات کی کیسے مدد فرمائی۔ اس حوالے سے ”فتح الشام“ کی کتاب کو بڑا مقام حاصل ہے۔

## علمائے کرام کی ذمہ داری

میرے دوستو! اس راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں لیکن ان رکاوٹوں سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی ایمان والوں کا راستہ نہیں روک سکتا۔ ہمارا کام ہے ہمت کے ساتھ قدم آگے بڑھانا اور اللہ کے وعدوں پر بھروسہ رکھنا۔ ایک طرف دنیا کے خزانوں کے منہ کھل رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ کا وعدہ ہے کہ رزق میرے ذمے ہے اور دنیا بھی میں نے رزق دینا ہے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں بلکہ اپنے پروار دگار کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ حالات کچھ بھی پلا کھا سکتے ہیں مگر علماء کا یہ کام ہے کہ وہ خود بھی شریعت پر جنمے رہیں اور لوگوں کو بھی شریعت پر جنمے رہنے کی تلقین کریں۔ کیونکہ اگر علماء کے اندر استقامت ہوگی تو پھر عوام کے اندر بھی استقامت پیدا ہو جائے گی۔ یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔

پہلے بھی جب امت پر ایسا وقت آیا تو علماء نے ہی قدم اٹھایا اور اللہ رب العزت نے ان کی برکتوں سے امت کو آزمائشوں میں سے نکالا۔ جو آزمائشیں اب آ رہی ہیں ان آزمائشوں میں بھی اللہ تعالیٰ علماء کو ہی سبب بنائیں گے۔ یہی قدم اٹھائیں گے اور ہمارے لئے ان مشکلات سے نجات کا سبب بن جائیں گے۔ اس لئے علماء کو چاہئے کہ وہ قرآن و سنت کو سامنے رکھیں۔ کیونکہ قرآن کی رو سے ان پر یہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَخْبَارُ

بِمَا اسْتَخْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ كَانُوا أَعْلَمُ بِشُهَدَاءِ اللَّهِ وَالْوَلِيَّةِ جُنُونَ كَوْحُكْمِ دِيَا گِيَا تھا کتبِ اللہ کی حفاظت کا۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں

وَ كَانُوا مِنْ نَبِيٍّ قُلْ مَعَهُ رَبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (آل عمران: ۱۲۸) کہ کتنے ہی انبیاء ایسے گزرے جن کے ساتھ مل کر علماء مصلحتے نے قیال کیا۔ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ فَمَا وَهَنُوا نہ ان کے اندر وہیں پیدا ہوا وَ مَا ضَغَفُوا اور نہ ہی ان کے اندر کمزوری پیدا ہوئی۔ وَ اللَّهُ يُعْلِمُ الصُّرِيفِينَ ایسے صبر والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔

علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ استقامت کا مظاہرہ بھی کریں اور راتوں کو اللہ کے حضور معافیاں بھی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہی تو فرمایا ہے۔

وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَاتَلُوا رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَ لَبَثَ أَقْدَامِنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ (آل عمران: ۱۲۷) (اور ہمیں تھی ان کی بات سوائے اس کے کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ اور ہماری زیادتیاں بخش دے اور ہمیں ثابت قدی عطا فرمادے اور ہمیں کافرین پر غلبہ عطا فرمادے)

یوں اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں کہ اے اللہ! ہمارے کسی گناہ کے سبب یہ مددک نہ جائے۔ گویا دن کے وقت سب علماء شکر غزی بن جائیں اور رات کے وقت شکر دعا بن جائیں تا کہ کفر کو پتہ چل جائے کہ اس کو ایمان والوں سے واسطہ پڑا ہے۔ بلکہ اسے پتہ چل جائے کہ اسے نربندوں سے واسطہ پڑا ہے۔

ایسے موقعوں پر زناہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایمان والے اللہ سے مانگیں گے تو

فَاتِهْمُ اللَّهُ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَ حُسْنُ ثَوَابُ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ ۝ (آل عمران: ۱۳۸)

(اللہ تعالیٰ دنیا کا حصہ بھی عطا فرمادیں گے اور آخرت کا بھی اور اللہ تعالیٰ تو نیکو کاروں سے محبت فرماتے ہیں)

علمائے کرام کی محترم جماعت! ایسے حالات میں اللہ رب العزت کی ذات پر نظر رکھئے۔

## لو ہے کے پختے

جس دن قرآن پاک کی آخری آیتیں اتریں اسی وقت یہ آیتیں بھی اتریں کہ **أَلَيْوْمَ يَسِّسَ الْدِيْنَ كَفَرُوا مِنْ دِيْنِكُمْ** (المائدہ: ۳) آج کے دن یہ کفار تمہارے دین سے نا امید ہو چکے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ یوں فرمانا چاہتے ہیں کہ آج کے دن ان کفار کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان لو ہے کے پختے ہیں اور ان کو چیانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔

## اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **فَلَا تَخْشُوْهُمْ** ان سے نہیں ڈرنا و اخشوونی بلکہ ایک مجھ سے ڈرتے رہنا۔ جب ہمارے دل میں ایک اللہ کا ڈر ہو گا تو اللہ تعالیٰ دنیا کے ڈر ہمارے دل سے نکال دیں گے۔ جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا وہ پھر اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے، اندھیرے سے بھی ڈرتا

ہے۔ رات کو اگر کھڑکی کا پرده ہل جائے تو اس سے بھی ڈرتا ہے بلکہ وہ بیچارہ تو بلی کی میاؤں سے بھی ڈرتا ہے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے۔ ہم ایمان والے ہیں، یاد رکھئے کہ جو ایمان والوں کو آنکھیں دکھائے گا وہ اللہ سے مقابلہ کرنے جائے گا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من عادلی ولیا فقد اذنه للحرب کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ اب جو کوئی ایمان والوں کی طرف میل آنکھ سے دیکھے گا اللہ اس کی آنکھ نکال دیں گے اور جوانگی اخھائے گا اللہ تعالیٰ اس کے بازو کو ختم فرمادیں گے۔

## حضرت ضرار بن ازور رضی عنہ کا جہاد

فتح الشام میں ایک صحابی حضرت ضرار بن ازور رضی عنہ کے بڑے محیب واقعات ہیں۔ میرے خیال میں وہ اس کتاب کے بیرو ہیں۔ ان کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہیں مسلسل آٹھ گھنٹے جہاد کرنا پڑا بالآخر کفار کے گھیرے میں آگئے۔ مسلسل آٹھ گھنٹے جہاد کرنے کی وجہ سے ان کا گھوڑا بھی تھک چکا تھا۔ وہ گھوڑے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے تھے مگر وہ آگے نہیں جاتا تھا۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ میرا گھوڑا تھک چکا ہے تو انہوں نے سوچا کہ اب تو میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ وہ اس وقت اپنے گھوڑے پر جھکے اور اس کی پیشانی پر محبت کا ہاتھ پھیر کر گھوڑے سے کہا، اے گھوڑے! تو تھوڑی دری کے لئے میرا ساتھ دے دے، ورنہ میں نبی عليه الصلوٰۃ والسلام کے روضے پر جا کر تیری شکایت کروں گا۔ جب انہوں نے

یہ الفاظ کہے تو وہ گھوڑا ہنہنا یا اور ایسے دوڑا جیسے کوئی تازہ دم گھوڑا دوڑتا ہے۔  
اس طرح وہ گھوڑا ان کو کفار کے زخم سے نکال کر باہر لے گیا۔ سبحان اللہ۔

کچھ وقت کے بعد وہ گرفتار ہو گئے۔ جب حضرت خالد بن ولید رض نے  
دیکھا کہ حضرت ضرار رض گرفتار ہو چکے ہیں تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ اتنے  
میں کچھ سوار ان کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہمیں ضرار کے پیچھے جانا چاہئے تاکہ  
ہم ان کو آزاد کروا کے لائیں۔

## حضرت خولہ رض کی بہادری

اسی نیت سے وہ چلے ہی تھے کہ انہوں نے گھوڑے پر سوار ایک ایسے مجاہد کو  
دیکھا جس نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے۔ اس کے پاس تکوار بھی ہے، نیزہ  
بھی اور اس کے پاس تازہ دم گھوڑا بھی ہے۔ وہ بھاگ کر کبھی ادھر جاتا اور کبھی  
ادھر۔ اس کی جوانمردی کو دیکھ کر مجاہد حیران رہ گئے۔

جب یہ سب حضرات دشمنوں کے پاس پہنچ تو حضرت خالد بن ولید رض  
نے اس تھکے ہوئے لشکر کے ساتھ دشمن پر دوبارہ حملہ کیا۔ انہوں نے  
کافروں کو گا جرا اور مولیٰ کی طرح کترا۔ لیکن انہیں حضرات ضرار رض کا پتہ نہ  
چلا۔ حضرت خالد بن ولید رض فرماتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ کافروں کے زخم  
میں آیا لیکن جیسے ہی میں کافروں کے زخم سے میں آتا تو میں اس سوار کو دیکھتا کہ  
وہ دوڑ کر میری طرف آتا اور کافروں کے اس زخم کو توڑ کر مجھے نکالنے میں مدد  
کرتا اور کبھی میں اس کو کافروں کے زخم سے نکالتا۔ حتیٰ کہ اس نے تو ایسی  
بہادری دکھائی کہ میں حیران ہونے لگا کہ خالد بن ولید رض کے پاس ایسا کون  
سماجہد ہے جو اتنی بہادری اور دلیری سے لڑ رہا ہے؟ فرماتے ہیں کہ کافی دیر

قال کے بعد جب ہم پھر پیچھے ہنے تاکہ ہم دیکھیں کہ ضرار بھی کا پتہ چلا ہے یا نہیں چلا تو ہم نے دیکھا اس مجاہد کا گھوڑا خون آ لود تھا۔ اس نے اتنے کافروں کو قتل کیا کہ اس کا گھوڑا بھی خون سے لٹ پت تھا، اس کا نیزہ اور تلوار بھی خوان آ لود تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے جوان مردا! تو کون ہے؟ آج تو میں سیف اللہ بھی تیری بہادری پر حیران ہوں؟ لیکن اس مجاہد نے ولی جواب نہ دیا۔ پھر پوچھا مگر پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے پھر تیری مرتبہ کہہ کہ میں امیر لشکر ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ تو کون مجاہد ہے، تو نے تو ہمیں حیران کر دیا ہے؟

جب تیسری مرتبہ پوچھا تو جواب میں ایک عورت کی آواز آئی۔ وہ کہنے لگی، میں ضرار بھی کی بین خولہ ہوں۔ جب مجھے پتہ چل کہ میرا بھائی رفتار ہو چکا ہے تو میں نے آپ سے اس لئے اجازت نہ مانگی تاکہ کہیں آپ انکار نہ کر دیں۔ میں نے تلوار اور نیزہ انھیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر پچکے سے آپ کے لشکر میں شامل ہو گئی۔ جب بھائیوں پر مصیبت آتی ہے تو پھر بینیں ان کام آیا کرتی ہیں۔ میں اس لئے قتل کرنے کے لئے نکل آئی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں تاکہ میں اس جنگ میں آپ کے ساتھ جا کر لڑسوں۔

میرے دوستو! جس قوم کی پردوے میں بیٹھنے والی عورتوں کی جوانمردی کا یہ عالم ہو، اس قوم کے جوانوں کا کیا حال ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان بڑی نعمت ہے۔ جب ایمان کو سامنے رکھ کر بندہ قدم انھی لیتے ہے تو پھر اللہ رب العزت مدد فرمادیتے ہیں۔

## گھوڑے کی استقامت

اگر ایک مجاہد کسی گھوڑے کو اس لئے پالتا ہے کہ میں اس پر بیٹھ کر جہاد کروں گا تو وہ گھوڑا پہچانتا ہے کہ مجھے اس لئے کھلایا پلا یا گیا تھا کہ میں نے جہاد میں شریک ہونا ہے۔ لہذا جب اس کا مالک زرہ پہن کر اس پر سوار ہو جاتا ہے اور تو اس سے دشمن کے سامنے لا کر کھڑا آرتا ہے تو وہ گھوڑا اکر چہ جانور ہے مگر اس میں اتنی فہم ضرور ہوتی ہے کہ اب اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آچکا ہے جس کے لئے میرے مالک نے میری خدمت کی تھی۔ چنانچہ گھوڑا تیار ہو جاتا ہے۔ اس کو اپنے سامنے تلواریں اور تیر نظر آرہے ہوتے ہیں مگر وہ گھوڑا گھبرا نہیں ہے۔ لہذا جب اس کا مالک اس سے بھاگنے کے لئے ایڑھی کا اشارہ کرتا ہے تو وہ گھوڑا بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، سامنے دشمن تیر بر ساتا ہے، مگر تیر و تفنگ اور دشمن کے وار سے اس کے جسم سے خون کے فوارے بھی چھوٹ رہے ہوں تو وہ اس بات کی پرواکے بغیر دشمن کی صفوں میں گھستا چلا جاتا ہے۔ وہ اپنی جان تو قربان کر دیتا ہے مگر وہ اپنے مالک کے اشارے کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کو گھوڑے کی یہ استقامت اتنی پسند آئی کہ اس گھوڑے کے پاؤں سے اڑنے والی منی کی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں۔ چنانچہ فرمایا، وَ الْعَدِيْتُ صَبَحَا . فَالْمُؤْرِيْتُ قَذَّا . فَالْمُغْيِرُتُ صُبْحَا ۝ سبحان اللہ، اے مجاہد! تیری عظمت کو سلام کہ تیرے گھوڑے کے قدموں سے اٹھنے والی منی کی بھی میرا پروردگار قسمیں کھار ہا ہے۔ جس پروردگار کو گھوڑے کی جوانمردی اور شجاعت اس قدر پسند آئی کہ وہ قسمیں کھا کر قرآن میں اس کے تذکرے فرماتے ہیں تو

جب مومن شجاعت کا اظہار کریں گے تو اللہ رب العزت کو یہ بات کتنی پسند آئے گی۔

## نصرت الہی کے وعدے

میرے دوستو! ہمیں بھی اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کر کے قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ دین اسلام کی نصرت کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وعدے فرمائے ہیں۔ کہیں ارشاد فرمایا، ان **تُنْصِرُوا اللَّهُ يَنْصُرُكُمْ وَيُبَشِّرُ أَقْدَامَكُمْ** (محمد ۶۰) کہیں ارشاد فرمایا، انہا **لَنْتُنْصِرَ رَسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا** (المؤمن ۵۱) اور ایک مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں و من اصدق من اللہ قبلہ کہ کون ہے اللہ سے زیادہ سچی بات کہنے والا۔ میرے دوستو! اللہ تعالیٰ کے وعدے پچ ہیں۔ وہ پروردگار یقیناً ہمیں کامیاب فرمائے گا۔

## چٹان بننے کی ضرورت

پچھے چیزیں وزن میں اتنی بلکی ہوتی ہیں کہ وہ پانی ساتھ بہہ جاتی ہیں۔ مثلاً کافر، لکڑی اور گھاس پھوس وغیرہ۔ لیکن پچھے پٹا نہیں ہوتی ہیں جو پانی کے ساتھ بہتی نہیں ہیں بلکہ وہ پانی کا رخ موزدیتی ہیں۔ ہم مومن ہیں اس لئے ہم گھاس پھوس اور تنکے نہ بنیں بلکہ ہم چٹان بن جائیں اور بہتے ہوئے پانی کا رخ پھیر دیں۔ کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے۔

یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو روک دیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو آج کفر اور بے حیائی کا سیلا بڑھ رہا ہے۔ ہمیں چہ ہے کہ ہم استقامت

کے ساتھ دُث جائیں اور شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔

## حضرت مشاطہ ﷺ کی استقامت

فرعون کے محل میں "مشاطہ" نامی ایک عورت فرعون کی بیٹیوں کے بال سنوارا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی اسی دوران اس کے ہاتھ سے نکلی نیچے گئی۔ جب وہ کنکھی انھا نے لگی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار کا نام لیا۔ جب مشاطہ نے اللہ رب العزت کا نام لیا تو فرعون کی بیٹی سمجھ گئی کہ یہ تو میرے والد کو معبد و نبی میں مانتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الہ پر ایمان رکھتی ہے۔ چنانچہ اس لڑکی نے مشاطہ سے پوچھا، کیا تم میرے والد کو وال نہیں مانتی ہو؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ میرا خدا تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہے۔

جب لڑکی نے مشاطہ کا دنوب جواب سنا تو وہ بھگ کر اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ آپ کے محل میں آپ کے زیر سایہ میں والی عورت آپ کو خدا نہیں مانتی۔ بیٹی کی لپیٹ میں سن فرعون غصے میں آگئی۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، اچھا میں دربار میں جا کر اس ہوتے کوایک عبر تناک سزا دیتا ہوں کہ یہ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو اس کہنے سے باز آ جائے گی یا پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو جائے گی۔

فرعون جب اپنے دربار میں پہنچی تو اس نے اس عورت کو اپنے پاس بوا یا اور کہا، تم موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو الہ کہنے چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ اس نے مشاطہ کو بڑا ذرا یاد حمکایا۔ مگر وہ کہنے لگی، کہا تم جو پچھہ کر سکتے ہو کرو، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی فاقض ہا امت قاص۔ اس کا یہ دلیرانہ جواب سن کر فرعون

نے اتنا کا مسئلہ بنالیا۔

چنانچہ فرعون نے کہا کہ اس کو زمین پر لنا دیا جائے۔ اسے زمین پر لٹادیا کیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں گاز دی گئیں تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ اسی دوران وزیر آیا اور اس نے فرعون سے کہا کہ اس کی ایک دودھ پیتی چھوٹی سی بچی بھی ہے، اگر اس کی اس بیٹی کو اس کے سامنے قتل کر دو، یہ اپنی مامتا سے مجبور ہو کر آپ کی بات مان جائے گی۔ چنانچہ فرعون نے اس کی دودھ پیتی معصوم بچی کو گھر سے بلوایا اور اسے اس کے سینے پر لٹادیا۔ وہ بچی ماں کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگ گئی۔ بچی ابھی دودھ پی بھی رہی تھی کہ فرعون نے کہا کہ میں تمہاری اس بچی کو تمہارے ہی سینے پر قتل کر دوں گا۔ وہ اتنی بڑی دھمکی سن کر بھی کہنے لگی کہ اب میرے دل میں اتنا ایمان بھر چکا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے بیٹی کو خون میں لت پت تر پتا تو دیکھ سکتی ہوں مگر میں اپنے ایمان کا خون نہیں کر سکتی۔ چنانچہ مشاطر کے سینے پر بھی اس کی معصوم بچی کی رُردُن کاٹ دی گئی۔ جس ماں کے سینے پر بیٹی کا خون بہر رہا ہوا اس دل کے دل پر یا گزرتی ہے۔ جب بیٹی خندی ہو گئی تو فرعون نے کہا کہ اب ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا، تم جو مرضی کر لو، میں چھپے نہیں ہٹ سکتی۔ بلا خراس عورت کو بھی شہید کر دیا گیا۔

## حضرت آسمیہ رض کی استقامت

فرعون اس کو شہید کرو کر جب گھر پہنچا نواپنی بیوی حضرت آسمیہ رض سے کہنے لگا، آج یہ داقعہ پیش آیا ہے کہ میں نے ایک عورت کو عبرتاک سزادے دی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، تم اتنا ہو، تو نے ایک معصوم بچی کی جان بھی لی

اور ایک بے گناہ عورت کا بھی قاتل ناچن کیا۔ فرعون نے کہا، میں نے اس کو اس لئے عبرتاک سزا دی کہ وہ مجھے خدا نہیں تانتی تھی۔ یعنی کہ حضرت آسمیہ پھنسنے کہا کہ خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی، بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔

جب فرعون نے یہ سنایا تو وہ حیران رہ گیا کیونکہ اسے حضرت آسمیہ پھنسے بڑی محبت تھی۔ حضرت آسمیہ پھنسنے کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا۔ فرعون نے اسے پوری قوم کی عورتوں سے چن کر اس کے حسن کی وجہ سے اپنی بیوی بنایا تھا اس وجہ سے وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ چنانچہ فرعون کہنے لگا، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگیں، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ تو جھوٹا ہے، پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ فرعون نے یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا۔ ہذا کہنے لگا کہ میں تمہارا بھی وہی خ Shr کراؤں گا جو میں نے مشاط کا کروایا ہے۔ وہ کہنے لگیں، تو جو چہتا ہے کر لے، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو نہیں چھوڑ سکتی، البتہ تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں۔

جب اس نے یہ باتیں سنیں تو وہ پھر دربار میں آیا۔ اب پھر اس نے لوگوں کو ہوالیا اور کہنے لگا، دیکھو! یہ کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے، موسیٰ (علیہ السلام) نے میری بیوی کو بھی بہکالیا ہے۔ آج میں اس عورت کو یا تو مارڈا لوں کا یا پھر وہ اپنی بات سے ہٹ بائے گی۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو گرفتار کرو کر دربار میں بلوایا۔ وہ تو ملکہ تھی اور اس کے اشارے پر نو کر چاکر بھاگ بھاگ کر کام کرتے تھے۔ لوگ احترام کی وجہ سے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے

تھے۔ آج وہ فرعون کے دربار میں ملزمہ بن کر کھڑی ہے۔ فرعون نے اسے کہا کہ تو اتنے عالیشان محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پلی ہے، میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنایا ہوا ہے، تجھے اب محل والی ناز و نعمت والی زندگی سے محروم ہونا پڑے گا، بہتر ہے تو اب بھی باز آ جا اور مجھے الہ مان لے۔ وہ کہنے لگی، اب میں نے ایمان قبول کر لیا ہے لہذا میں اپنی بات سے پچھے نہیں ہٹ سکتی۔ چنانچہ فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے بھی سزا دوں گا۔

فرعون نے سب سے پہلے سزا کے طور پر اسے رسوا کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ اب بتائیے کہ اگر کسی مرد کو کہا جائے کہ تجھے لوگوں کے درمیان بے لباس کر دیں گے، مرد کو اتنی شرم آتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں اندر اتر جاؤں۔ وہ تو بالآخر عورت تھی اور عورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شرم و حیار کھی ہوتی ہے۔ فرعون نے اس کے جسم سے لباس اتروادیا۔ آپ سوچئے کہ وہ اب کتنی عجیب صورت حال کا شکار ہے۔ ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف امتحان ہے۔ وہ ڈلی رہی۔ فرعون نے کہا، اچھا اگر اب بھی نہیں مانتی تو میں تجھے اور طرح کا عذاب دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ اس کامنہ میرے محل کی طرف کر کے لٹاد دتا کہ آخری وقت بھی اس کی نگاہیں میرے محل پر لگی رہیں اور اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ میں ان نعمتوں کو ٹھکر اکر ذلیل و خوار ہو کر مر رہی ہوں۔ لہذا اسے فرعون کے حکم کے مطابق لٹادیا گیا۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں لو ہے کی کیلیں گاڑ دی گئیں تاکہ ہل نہ سکے۔

اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ اس کے جسم سے کھال کو جدا

کرنا شروع کر دو۔ اب بتائیے کہ وہ زندہ عورت ہے اور اس کے جسم سے کھال اتنا ری جا رہی ہے، نازک مدن ہے مگر اس کو بروادشت کر رہی ہے، اسے اللہ کے نام پر تکلیف دی جا رہی ہے۔ اس طرح اس کے جسم سے کھال اتنا دی گئی۔ اللہ کی شان دیکھئے کہ وہ ابھی تک زندہ تھی، مگر جسم زخم زخم بن چکا تھا۔ فرعون کا دل ابھی تک خھنڈ انہیں ہوا تھا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، مر چیس لا وَا اور اس کے پورے جسم پر چھڑک دو۔ حضرت آیہ ﷺ کے جسم پر مر چیس ڈال دی گئیں تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگ گئیں۔ اس تڑپنے کی حالت میں انہوں نے اللہ رب العزت کے حضور ایک دعا مانگی کہ اے اللہ! فرعون کا محل سامنے ہے، یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیا ہے، آج کے بعد تم اس محل میں نہیں جاسکوگی۔ اس لئے رَبِّ ابْنِ لِيْلِيْلَ عَنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اے پور دگار! مجھے اس محل کے بد لے میں جنت میں آپ کے پاس ایک گھر چاہئے وَ نَجِبِيْ مِنْ فَرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ وَ نَجِبِيْ مِنْ الْقَوْمِ الظَّلْمِيْنَ (التحریم: ۱۱) اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرمادیجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں ان کوششات کے مرتبہ پر فائز فرمادیا۔ سبحان اللہ۔

## حضرت مشاطہ رضی اللہ عنہ کا انعام

اللہ رب العزت بھی کیسے قدر داں ہیں کہ ان دو عورتوں نے اللہ کے نام پر قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو قابلِ رشک اجر دیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ معراج کے وقت جب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے تھے تو راستے میں ایک وادی میں سے خوشبو آئی۔ آپ ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل! جو خوشبو میں یہاں سے سونگھ رہا

ہوں وہ تو بڑی انوکھی خوبیوں ہے، یہ خوبیوں کیا سے آ رہی ہے؟ جب تک علیہ السلام نے بتایا کہ اے اللہ کے محبوب ﷺ! فرعون کے محل میں ”مشاطہ“ نامی جو ایک نوکرائی تھی، یہاں اس کی قبر ہے۔ یہ خوبیوں کی قبر سے آ رہی ہے اور آپ کو محسوس ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ

## حضرت آسمانیہ ﷺ کا انعام

حضرت آسمانیہ ﷺ کو کیا انعام ملا؟ حدیث پاک میں ایسا ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے ان کی ابیہ صاحبہ حضرت خدیجہ الکبری ﷺ جب آخری لمحات میں تھیں تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خدیجہ! آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہی ہیں، جب جنت میں جاؤ تو وہاں میری بیویوں کو سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ الکبری ﷺ نے حیران ہو کر پوچھا، اے اللہ کے محبوب ﷺ! میں آپ کی پہلی بیوی ہوں، مجھ سے پہلے آپ کی کوئی بیویاں جنت میں ہیں؟ میرے آقا ﷺ نے ارشاد فرمایا، دنیا میں آپ میری پہلی بیوی ہیں مگر مریم اور آسمانیہ آپ سے پہلے جنت میں پہنچ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی میری بیویاں بنادیا ہے۔ سبحان اللہ

دیکھئے کہ اللہ رب العزت کتنے قدر داں ہیں کہ حضرت آسمانیہ ﷺ فرعون کے محل اور اس کی نعمتوں کو لات مارتی ہیں تو اللہ رب العزت ان کو اپنے محبوب ﷺ کی بیوی بنادیتے ہیں۔ پروردگار! آپ کتنے بڑے قدر داں ہیں کہ جو بندہ آپ کے راستے میں قربانی دیتا ہے آپ اس کی اوقات سے بڑھ کر اسے انعام عطا فرمادیتے ہیں۔ کہاں وہ دنیا میں فرعون کی بیوی تھی اور جنت میں کہاں وہ اللہ کے محبوب ﷺ کی بیوی بن کر زندگی گزارے گی۔

## رحمت الہی کا سہارا

ہمیں بھی چاہئے کہ ہم بھی دین اسلام کی سر بلندی کے لئے استقامت کے ساتھ قدم آگے بڑھائیں۔ اس طرح اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرمائے کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو واقعی ڈر لگتا ہے۔ اے اللہ! ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، بس تیری رحمت کا ہی سہارا ہے، ہم نے تو فقط کلمہ پڑھا ہے، اے اللہ! تو اسی کلمہ کی لاج رکھ لینا۔ اے اللہ! یہ تیرے چند بندے جنہوں نے تیری دھرتی پر دین کا نظام قائم کیا آج پوری دنیا ان بے سرو سامان بندوں کو ڈر ادھر کارہی ہے کہ تمہارا نام و نشان مٹا کے رکھ دیں گے۔ اے اللہ! ان کے پاس تو تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، میرے مولا! آپ ان کی پشت پناہی فرمادیجئے اور اپنی مدد کے ساتھ ان کو استقامت نصیب فرمادیجئے۔ پروردگار عالم! ہماری زندگیوں کو بھی دین کے لئے قبول فرمالے، جب تک ہم زندہ رہیں ہم دین پر ہی جھے رہیں اور جب موت کا وقت آئے تو ہمیں بھی شہادت کی موت آئے۔ (آمین ثم آمین)

و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

دوہ بخت تھے  
دوائے دل

وہ ہستی آج دنیا سے چلی گئی ہے جن کی دعائیں ہمارے  
گرد پھرہ دیا کرتی تھیں۔ جس طرح بھیڑ بکریوں کے گھے  
کے لئے ایک نگہبان اور محافظ ہوتا ہے اور اس کی موجودگی  
میں بھیڑ ریا یا کوئی اور جنگلی جانور ان بھیڑ بکریوں کو نقصان  
نہیں پہنچا سکتا اسی طرح شیخ کی موجودگی میں مریدین  
کے قلوب پر بھی اللہ رب العزت کی رحمت کا پھرہ ہوتا  
ہے۔ اس لئے فرمایا، سماں یہ مرشد بہتر است از ذکر حق۔

## وَهُجُونٍ يَسْتَهِنُ دَوَائِيَّ دَلْ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّكَ وَكَفَى وَسَلَّمَ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَا بَعْدُ!  
 أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ يَسْمُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّجِيمُ ۝  
 كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ . وَيَقِنَّا وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْأَكْرَامِ وَ  
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامِ اخْرَى إِنَّ أُولَيَاءَ اللَّهِ لَا يَخُوفُهُمْ  
 وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝ لَهُمُ الْبَشَرَى  
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۝ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ  
 هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامِ اخْرَى يَأْيَاهَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا اسْتَعِنُوا بِالصَّابِرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ وَلَا  
 تَقُولُوا لِمَنْ يُعَذَّلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاثَ طَبْلَ أَحْبَاءَ وَلِكُنْ لَا  
 تَشْعُرُونَ ۝ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ النَّعُوفِ وَالجُوعِ وَنَقْصِ  
 مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثُّمَراتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا  
 أَصَابَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَئِكَ  
 عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهَتَّلُونَ ۝ وَ  
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ الْمُرْسَلُونَ مَعَ مَنْ أَحْبَبَ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ  
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .

مُبْخِنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصْفُونَ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ  
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

## ایک عظیم صد مہ

آج ہم ایک ایسی مجلس میں یہاں اکٹھے ہیں کہ سب کے دلوں پر ایک صد مہ ہے۔ یہ ایک ایسا صد مہ ہے کہ زندگی میں شاید ایسا شدید جھٹکا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے دلوں میں ایک ایسا غم ہے کہ اگر وہ پھاڑوں پر ڈال دیا جائے تو شاید ان کے لئے بھی انہماں مشکل ہو جائے۔

## رحمت الہی کا پھرہ

وہ ہستی آج دنیا سے چلی گئی ہے جن کی دعائیں ہمارے گرد پھرہ دیا کرتی تھیں۔ جس طرح بھیز بکریوں کے گلہ کے لئے ایک نگہبان اور محافظ ہوتا ہے اور اس کی موجودگی میں بھیز یا یا کوئی اور جنگلی جانور ان بھیز بکریوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اسی طرح شیخ کی موجودگی میں مریدین کے قلوب پر بھی اللہ رب العزت کی رحمت کا پھرہ ہوتا ہے۔ اس لئے فرمایا، سایہ، مرشد، بہتر است از ذکر حق (مرشد سایہ ذکر حق سے بہتر ہے)

## حافظت کے لئے ایک مسنون دعا

حضرت مرشد عالم ”کی شخصیت رحیم و شفیق ذات تھی۔ ہر آدمی یوں سمجھتا تھا کہ ان کا مجھ ہی سے سب سے زیادہ تعلق ہے۔ ان کے خصائص و فضائل ایک محفل میں تو بیان نہیں کئے جاسکتے البتہ اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا صد مہ ہے۔ ہم اس پر صبر کریں اللهم لا تحرمنا اجرہ و لا تفتنا بعدہ اس مسنون دعا کے پڑھنے سے اللہ رب العزت: وَإِنْ حَفَاظْتُ

فرمائیں گے۔

## شیخ کی جدائی کا غم

مرید کو شیخ کے ساتھ عشق و محبت کا جتنا تعلق ہوتا ہے اسے شیخ کی جدائی کا غم اس کے بقدر ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں ہر آدمی کی کیفیت جدا ہوتی ہے۔ سلف صالحین جب اس دنیا سے جاتے تھے تو ان کے مریدین و متولین پر بھی یہی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ ان کے لئے یہم برداشت کرنا مشکل ہوتا تھا۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔

## محبت ہو تو ایسی !!!.....!!

«حضرت عمرؓ کی وفات پر حضرت صہیب رومیؓ شدت غم کی وجہ سے اوپنجی آواز میں روپڑے اور کہنے لگے واعمراء، واحبیباء، واخاه دوسرے صحابی نے انہیں صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہا، جی صبر کریں، ایسا نہیں کرنا چاہئے۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں عمر کی موت پر نہیں رورہا بلکہ میں اسلام کے ضعف پر رورہا ہوں۔

## ایمان کی بقا کا ذریعہ

بعض ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن کا وجود لاکھوں انسانوں کے ایمان کی بقا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایسے آدمیوں کا دنیا سے اٹھ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ ایسی شخصیات تو دنیا میں انقلاب کی مانند ہوتی ہیں۔ لیکن جو بادہ خواہ تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں

ان کے چلنے سے زمین کے وہ بلکڑے روتے ہیں جہاں پر وہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے ان کیلئے رزق اتارا جاتا تھا۔ ان حضرات کی جداگانہ دل پر ایسا خشم کر جاتی ہے جسے کوئی بھی مرہم مندل نہیں کر سکتی۔

جب خواجہ نظام الدین اولیاءؒ کی وفات ہوئی تو امیر خروؒ نے ہندی زبان میں چند اشعار لکھے۔ ان میں سے ایک مصریہ بہت مشہور ہوا۔ فرمایا  
چل خرو گھر آپنے سانچ پی سب دلیں  
اے خرو! سارے دلیں میں ایک تاریکی معلوم ہوتی ہے، تو چل اپنے گھر کی طرف۔

### پیر اور مرید کی لازوال محبت

خواجہ نظام الدین اولیاءؒ جیرت تھے اور امیر خروؒ ان کے مرید تھے۔ ان دونوں میں اتنی محبت تھی کہ خواجہ نظام الدین اولیاءؒ یوں فرماتے تھے کہ اگر شرع شریف کی اجازت ہوتی تو میں یہ دصیت کر جاتا کہ مجھے اور امیر خروؒ کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے۔

دوسری طرف امیر خروؒ کا یہ حال تھا کہ ایک وفعہ خواجہ نظام الدین اولیاءؒ کی خدمت میں ایک سائل آیا۔ اس نے سوال کیا، اس وقت حضرت کے پاس کچھ نہ تھا۔ لہذا حضرتؒ نے اپنے جوتے اسے دے دیئے اور کہا کہ یہی جوتے ہی لے جاؤ۔ جی ہاں جو خنی ہوتے ہیں وہ اپنے درسے کسی کو خالی نہیں جانے دیا کرتے۔

وہ شخص حضرت کے جوتے لے کر جس راستے سے جا رہا تھا امیر خروؒ اسی

راستے سے خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس آ رہے تھے۔ وہ جوتے اس سائل کے پاس دیکھ کر پہچان گئے کہ آج اس سائل کو حضرت کے دربار سے یہ نیاز ملی ہے۔ چنانچہ کہنے لگے، بھائی! کیا تم میرے ساتھ یہ سودا کرنے کے لئے تیار ہو کہ یہ جوتے مجھے دے دو اور میں پچھے پیسے تمہیں دے دیتا ہوں۔ وہ سمجھ گیا چنانچہ کہنے لگا کہ نہیں، بلکہ میں اس کے بد لے آپ سے اتنی زیادہ قیمت لوں گا۔ امیر خسرہ نے اس کی من مرضی کی قیمت اس کو دے دی اور اپنے شیخ کے جوتے لے کر سر پر رکھے اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

امیر خسرہ اپنے شیخ کی محبت میں کہتے تھے

من تو شدم تو من شدی من تن شدن تو جاں شدی  
تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری  
(کہ میں تو ہو جاؤں اور تو میں ہو جائے اور میں تن بن جاؤں اور تو روح  
بن جائے تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تو اور ہے اور میں اور ہوں)

### حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم

حضرت مرشد عالم کی شفقتیں اور عنایتیں زندگی بھر رلاتی رہیں گی اسی لئے کی عارف نے کہا۔

حال من در بھر حضرت تم تراز یعقوب نیست  
اول پس گم کردہ بود و من پدر تم کردہ ام  
(کہ میرا حال حضرت یعقوب علیہ السلام کے حال تباہ مختلف نہیں ہے کیونکہ  
اگر ان کا بیٹا ان سے جدا ہو گیا تھا تو میرے تو باپ مجھ سے جدا ہو کے)

غور تو کچھ کہ حضرت یعقوب ملک پر یا کیفیت نزدیکی، قرآن مجید و اہل کو ایضًا عینہ من الحزن (یوسف ۸۲) رہ رکران فی آنکھیں غصیہ ہوئی تھیں۔ بے انتہا نے دیکھا ہے کہ امرداد بیٹی جدائی میں اتنا رہ سکتے تھے تو باپ نے بد اُلیٰ میں ولی مدد روئے گا۔

### مولانا شیداحمد لنگوہی پر شیخ کی وفات کا اثر

حضرت سابق امداد اللہ مہاجر ملی جب فوت ہوئے تو حضرت مولانا شیداحمد اشتوہی کو پندرہ دن تک خون کے اسہال آتے رہے۔ ان کو شیخ کے فوت ہوئے پر اتنا سدہ ہوا۔ یقیناً یا ایک اظری بات ہے کہ جس کا جتنہ تعلق زیادہ ہو اس پر جدائی کا اثر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔

### نابغہ، عصر شخصیت

حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ یعنی ہزاروں ذصائل و فضائل والی ذات میں میں ولی پیدا ہوتی ہوئی۔ ان کے تقویٰ، زہد اور علم و حرفات پر عالم احمد مشائخ اور علماء نے مہر ثبت رہی تھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں قویت عامہ اور قبولیت تامہ نصیب کر رہی تھی۔ ایسی ہستیاں بار بار دنیا میں نہیں آیا لرتیں۔

سرود رفت باز آیہ کے ناید  
نیسم از جاز آیہ کے ناید  
سرآمد روزگار آں پس  
دبر دانے راز آیہ کے ناید

معلوم نہیں کہ ایک نابغہ، عصر شخصیت کوئی اور ہوگی یا نہیں۔ اسی مضمون کو ایک اور شاعر نے یوں بیان کیا۔

ہزاروں سال زگس اپنی بے نوری پر روتی ہے  
بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا

## حضرت مرشد عالم" کے لیل و نہار کی ایک جھلک

میرے پیارے مرشد ان حضرات میں سے تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی انی دعوت قومی لیلا و نہارا کے مصدق اللہ رب العزت کے دین کی سر بلندی کے لئے لگا دی۔ ان کے سارے دن کا پروگرام رضاۓ الہی کا حصول ہوتا تھا۔ ان کی ہر وقت کی سوچ یہی یہی ہوا کرتی تھی۔ ان کی سالکین پر ہر وقت نظر ہوتی تھی۔ ہر ایک پر نظر رکھتے تھے۔ روک ٹوک کے ساتھ تربیت کرتے تھے۔ خلطی پر ڈانتھے بھی تھے اور عیب کی ستر پوشی بھی کرتے تھے۔ ان کے کمالات ایک محفل میں نہیں گئے جاسکتے۔ اگر وہ آج اس محفل میں رونق افروز ہوتے تو محفل کارنگ ہی جدا ہوتا۔ ان کے منور اور روش چہرے کو دیکھ کر ہمیں تازگ نصیب ہوتی۔ رحمتیں اور فیوضات نصیب ہوتے۔

## صحابہ کرام پر وصال نبوی ﷺ کا اثر

محترم جماعت! یہ صد مہ فقط ہمیں ہی پیش نہیں آیا بلکہ بڑوں کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ حضرت انس روایت فرماتے ہیں لما کان الیوم الدی دخل فیہ رسول اللہ صَلَّیَ اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ المدینۃ اضاء منها کل شئی و لما کان الیوم الذی مات فیہ اظلم منها کل شئی کہ جس دن رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ

میں داخل ہوئے تو مدینہ کی ہر چیز منور ہو گئی اور جس دن رسول اللہ ﷺ نے وفات پائی تو مدینہ منورہ کی ہر چیز پر ظلمت نازل ہونے لگی۔ پھر آگے ایک اور بات کہی فرمایا و ماتقضایا دینا عن التراب و انا لفی دفنه سُنّۃ نبی ﷺ حتیٰ انکرنا قلوبنا اور ہم نے ابھی رسول اللہ ﷺ کی دفن کی مشنی سے ہاتھ نہیں جھاڑے تھے کہ ہم نے اپنے دلوں کی کیفیت کو بدلتے دیکھ لیا۔ یعنی وہ انوارات و فیوضات نبوت جو حیات مبارکہ میں نصیب ہوتے تھے ان میں تبدیلی آگئی۔ آج ہمارے اوپر بھی یہی کیفیت ہے یہ ایک فطری امر ہے۔

### اسوہ رسول ﷺ اپنانے کی تلقین

جب کوئی مفسر یا محدث یا فقیہ فوت ہوتے اور ان کے مریدین اکٹھے ہوتے تو وہ بیٹھتے اور ایک دوسرے سے ملتے وقت یہ آیت پڑھتے لقد کان لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تمہارے لئے رسول اللہ ﷺ کے اسوہ میں بہترین نمونہ ہے۔ اس پر ایک شاعر نے شعر لکھے۔ وہ فرماتے ہیں

اصبر لکل مصیبة و تجلد  
واعلم بان المرء غير مخلد  
واصبر كما صبر الكرام فانها  
نوب تنوب اليوم تكشف في غد  
فإذا اتاك مصيبة يشجى بها  
واذكر مصاتك بالنبي محمد

{ کہ تجھ پر کوئی بھی مصیبت اور پریشانی آئے تو تو اس پر صبر کرو اور تو جان لے کر

کوئی بھی انسان ہمیشہ رہنے والا نہیں ہنا اور تو صبر کر کے جیسا کہ اکرام اور بزرگی والے لوگ صبر کرتے رہے اس لئے کہ مصیبت اگر آج آتی ہے تو بالآخر کل یہ چلی جائے گی اور اے مخاطب! اگر تمھرے پر کوئی ایسی مصیبت آجائے جس کی وجہ سے منہ کھلا کا کھلا رہ جائے تو یاد کر اس مصیبت کو جو حضرت محمد ﷺ کی وفات کی وجہ سے (صحابہ کو) پیش آئی۔ رسول اللہ ﷺ کی جدائی کے غم سے بڑا کوئی غم بھی مومن کو پیش نہیں آ سکتا۔

## انقلاب لانے والی شخصیات کا طرز عمل

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس جدائی میں رو رو کر بر احوال کر لیں؟ کیا آنسو بھاتے چلے جائیں۔ کیا آنکھیں ساون بھادوں کی طرح برسی چلی جائیں؟ اور کیا ہم اسی طرح مغموم حالت میں اپنا وقت گزارتے رہیں؟ نہیں بلکہ ہمیں اس غم پر صبر کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے شیخ نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں۔ دنیا میں جو بھی ہستیاں دنیا کو سنوارنے والی ہوتی ہیں ان کی محنتیں اور کوششیں مغض افرادی نہیں ہوا کرتیں بلکہ انقلاب لانے والی یہ شخصیتیں لوگوں کو ایک لائے عمل دیا کرتی ہیں۔ اور ان کے اندر اس محنت کی جزیں اتنی گہری کر دیتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا میں نہیں بھی رہتے تو ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے اس راستے کے اوپر گامزن رہا کرتے ہیں۔

## سیدنا صدیق اکبرؒ کا بصیرت آموز خطاب

یہی بات تھی کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرامؓ کی ایسی تربیت کی کہ جب آپ ﷺ کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام اس غم کی وجہ سے حواس کھو

بیٹھے۔ حضرت عمرؓ جیسے جلیل القدر صحابی ہاتھ میں تواریخ کر کہنے لگے کہ جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ ﷺ وفات پا گئے ہیں تو میں اس کی گردان اڑا دوں گا۔ حضور ﷺ تو اپنے آقا سے ملنے کے لئے تشریف لے گئے ہیں۔ لیکن آپ ﷺ کی تعلیمات بھی ان کے سامنے تھیں، ایک راستہ معین کر دیا گیا تھا۔ ایک دستور العمل تھا جس کی جزوں بہت گہری تھیں۔ اسی لئے سیدنا صدیقؑ اکابرؑ کھڑے ہوئے اور حضرت عمرؓ کی اس کیفیت پر اس طرح غلبہ پایا کہ اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگے، لوگو، سنو! اگر تم رسول اللہ ﷺ کی عبادت کرتے تھے تو محمد ﷺ فوت ہو گئے ہیں اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر

فَرِمَا يَاوْ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ فَقَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ إِفَاءً نَّمَاثٍ  
أَوْ قُتْلَ إِنْ قَلَّتْ بَعْدُمُ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَ مَنْ يُنْقِلِّبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا  
وَ سَيَجْزِي الشُّكْرِينَ -

صحابہ کرام فرماتے تھے کہ یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھتے تھے لیکن بر موقع اور محل اس کی تلاوت سے ہمیں یوں معلوم ہوا جیسے قرآن کی یہ آیات آج ہم پر نازل ہو رہی ہیں۔

گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف  
ترے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب  
جب تک کتاب نازل ہونے والی کیفیت نہ بنائے تب تک یہ گرہ نہیں  
کھلا کرتی۔ سیدنا صدیقؑ اکابرؑ نے کھڑے ہو کر رسول اللہ ﷺ کے نائب ہونے کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے جب یہ آیات پڑھیں تو وہ حضرات غم کی اس

کیفیت سے نکل گئے جس نے ان کے حواس کو دور کر دیا تھا۔

## ہماری ذمہ داری

آج ہمارے اوپر بھی جدائی کا ایک غم ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے دو باتیں ہیں۔ یا تو یہ کہ اس جدائی کے غم سے ہم نا امید ہو کر بیٹھ جائیں اور دوسرا رستہ یہ ہے کہ حضرت مرشد عالم نے اپنی تعلیمات میں جس طرح ہمیں برائیخختہ کیا اور پوری زندگی دین پر کار بند رہونے کے لئے مستعد رہنے کی تعلیمات دیں ہم ان تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے عزم کے ساتھ اس پر قدم اٹھائیں۔ ہمیں اس راستے پر نئے عزم اور ہمت کے ساتھ چلنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس غم اور بوجھ کے صد میں کو جانتے ہیں اور یاد رکھنا کہ مومن پر جب کوئی صدمہ گزرتا ہے تو اس کی زندگی کی کتنی بھی خطاؤں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اگر اس میں ہم نے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا اور اپنے لائے عمل کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو تقویٰ اور پرہیز گاری کے مطابق گزارا تو یقیناً ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہوگی۔ کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے المرء مع من احب بندہ روز محشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ میرے دوستو! ہمیں حضرت مرشد عالم سے بے پناہ محبت تھی، اگر یہ محبت آئندہ بھی ہمارے دلوں میں رہے گی اور ہم ان کے ارشادات و فرمودات پر پوری جان و دل کے ساتھ عمل کرتے رہیں گے تو یقیناً یہ محبت رنگ لائے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کا ساتھ نصیب کیا۔ حوض کوثر پر بھی ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ یقیناً یہ صحیح بات ہے ہم ان کی توقعات پر پورا اتریں۔ ان کی توقعات تھیں

کہ ہم بھی ایسی محنت کریں کہ ہمیں بھی معرفت الٰہی کے جام بھر بھر کے پلانے جائیں کیونکہ مالی جب ایک پودا لگاتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کو پھلتا پھولتا دیکھے۔ ہم اگر شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لئے تن من دھن کی بازی لگادیں گے تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کی روح پر فتوح کو خوشی ہو گی۔ آج ہم نے اس بات کا عہد کرنا ہے بلکہ یوں سمجھیں کہ تجدید عہد کرنی ہے کہ جو معمولات حضرت نے بتائے اور جو پیغام وہ دن رات سنایا کرتے تھے، بھلے ہم سے پہلے غفلت ہوئی، ہم نے وقت کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہئے تھی، لیکن آج وہ زخم تازہ ہو رہے ہیں، آج اندر زکا انسان جاگ رہا ہے، چوت لگنے سے اس کی آنکھ کھلی ہے، ہم آئندہ زندگی ان کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کا ارادہ کریں اور اس کے لئے جان و دل سے کوشش کریں۔ بھراللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں گے اور ہمیں ہمارے ان ارادوں میں کامیاب فرمادیں گے۔ و ما ذلک علی اللہ بعزم اور اللہ پر یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ کوشش بندے کے ذمے ہے۔ اسی لئے کسی نے ایک عجیب بات کہی کہ دنیا کا سب سے لمبا سفر ایک قدم اٹھانے سے شروع ہو جاتا ہے۔ ہم دل میں یہ ارادہ کر کے قدم اٹھائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں منزل نصیب فرمائیں گے۔ اس کا مشاہدہ، اس کی رضا اور اس کی لقا نصیب ہو گی۔

اللہ رب العزت کی رحمت کے اترنے کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ آجائی ہے تو ہمیشہ بندے کی کشتی کو کنارے لگادیا کرتی ہے۔ ہم سے اب تک جو غلطیاں ہوتی رہیں یا آئندہ بھی ہوں تو ان پر حسرت اور افسوس کرتے ہوئے

نفس کے ہاتھوں شکست نہ کھائیں بلکہ منزل کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ جیسے دو پہلوان آپس میں لڑتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی نیچے بھی آجائے تو وہ نیچے آنے سے دلبرداشتہ نہیں ہوتا بلکہ نیچے آ کر بھی اس کوشش میں رہتا ہے کہ میں اوپر والے کو نیچے لے آؤں۔ اس کے لئے وہ داؤ آزماتا ہے، عقل کا نور استعمال کرتا ہے، کوشش اور فتن کو استعمال کر کے نیچے آنے والا فتح پانے والا بن جاتا ہے۔ اگر کبھی ہم خود کر بھی کھائیں تو دوبارہ سنجھل جائیں اور توبہ تائب ہو کر منزل کو سامنے رکھتے ہوئے قدم اٹھاتے چلے جائیں۔ اسی لئے ایک بزرگ نے کیا ہی پیاری بات فرمائی۔

نہ چلت کر سکے نفس کے پہلوان کو  
تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے  
اڑے اس سے کشتی تو ہے مر بھر کی  
کبھی وہ گرائے کبھی تو کرائے  
اگر کسی موقع پر نفس ہمیں دباتا ہے تو ہم بھی کسی دوسرے موقع پر نفس کو  
دپالیں۔ جیسے پہلوان کھیلتے ہیں اور ایک کے دوسرے سے سکور زیادہ ہوتے  
ہیں۔ لیکن وہ پرامید رہتے ہیں کہ نہیں، انشاء اللہ ہم جیتیں گے۔ اسی طرح اس  
نفس کی جنگ میں ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں اور دل میں یہ تمنا رکھیں  
کہ جیسے ہمارے حضرت کامیاب و کامران گئے، ان کے فیوض و برکات سے  
اس نفس کی جنگ میں انشاء اللہ آخری فتح ہماری ہوگی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ  
کہ انشاء اللہ ہمیں بھی کلمے پرموت آئے گی اور یہی ہماری فتح ہوگی۔

## مرشد عالم کے آخری لمحات کی ایک جھلک

حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کی موت بھی کتنی پیاری تھی۔ نواسے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ یہ آیت پڑھتے ہیں یا ایہا الذین امنوا استعینوا بالصبر و الصلوٰۃ (البقرۃ ۱۵۳) جب وہ یہ آیت پڑھتے ہیں، حضرت ان کو دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں۔ انہوں نے آگے پڑھا ان اللہ مع الصبرین حضرت نے یہ الفاظ سنے، چہرے پر مسکراہٹ طاری ہوئی اور جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔

شان مرد مومن با تو گویم  
چوں مرگ آید تمسم برلب اوست

میں تمہیں مرد مومنی پہچان بتا دوں۔ جب اس پر موت آتی ہے تو اس کے ہوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ کل آپ اور ہم سب نے دیکھ لیا کہ حضرت کس طرح مسکراتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان کا کیس ھلا ہوا چہرہ تھا، نہلا تے وقت بدن نرم و نازک محسوس ہوتا تھا۔ یوں لکھا تھا کہ بس تھوڑی دیر کے لئے آرام کر رہے ہیں۔ میرے دوستو! ہمارے لئے ایک راستہ متعین ہے ہم دل میں یہ عبد کریں کہ جو باغ انہوں نے لگایا ہے، ہم اس میں کھلنے والے پھول بنیں گے اور ہم اپنی خوبیوں سے اس باغ کو مہکائیں گے۔

## قرآن پاک سے تعلق جوڑیں

آپ اپنے آخری وقت میں قرآن سنتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے اور اپنی زندگی میں بھی قرآن پاک کو حرز جوں بنانے رکھا۔ اپنی معمول ان فتنگوں

میں بھی اکثر آیات قرآنی ہی کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اپنے بیانات میں وہ آیات کو اپنے مطالب کے ساتھ اتنی روانی اور تسلسل سے پڑھتے تھے کہ لگتا تھا کہ علوم و معارف کا ایک دریا ہے جو بہا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے اپنے ملکیں اور مریدیں کو بھی ہمیشہ یہی نصیحت کی کہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیز۔ ہی میں ہماری نجات ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے۔

"ہمیں کہتا ہے یہ قرآن،  
اویس مانے والے مسلمان!

تیرے ہاتھ میں ہو قرآن پھر تو دنیا میں رہے پریشان  
تیرے ہاتھ میں ہو قرآن پھر تو دنیا میں ہونا کام  
تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں بنے غلام  
غلامی نفس کی ہوشیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو، ناں ناں ناں  
ہمیں کہتا ہے یہ قرآن، اویس مانے والے مسلمان!

اُفْرَاءٌ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ تُوْپُرَّهُ قرآن تیرارب کرے گا تیرا اکرام  
تیرارب بجھے عزت و وقار دے گا، تیرے ظاہر و باطن کو نکھار دے گا

## حضرت مرشد عالم " کی تعلیمات کا نچوڑ

فقیر اس موقع پر وہ تین آیتیں پڑھتا ہے جو حضرت "اکثر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ وہ آیتیں ہمیں اپنی تعلیمات کے نچوڑ کے طور پر سناتے تھے لیکن اس وقت بات سمجھنے میں نہیں آتی تھی، کاش! اللہ تعالیٰ ہمیں آج سمجھنے کی توفیق عطا فرمادیں۔

پہلی آیت یہ ارشاد فرماتے تھے۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَفْعُلُوا اللَّهُ

یجعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا (الأنفال: ۲۹) یہ آیت ہمارے لئے ایک بہت بڑا بھروسہ ہے اور دل کے لئے تقویت کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو! اگر تم تقویٰ کو اختیار کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں قوت فارقہ نصیب کرے گا۔ جس سے تمہیں حق و باطل کی پہچان رہے گی۔ اس لئے ہم اگر پہیزگاری کو اپنا میں گے اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک تقویٰ و طہارت والی زندگی گزاریں گے تو اللہ کے قرآن کے مطابق ہمیں یہ قوت فارقہ نصیب ہو جائے گی اور اپنی آئندہ زندگی حق و باطل کی پہچان کرتے ہوئے گزار پائیں گے۔

دوسری آیت یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ اتُوِّلُ الزَّكُوْهَ وَ اغْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مُوْلَكُمْ حَفِيْعُ الْمُؤْلِي وَ نُعْمَ النَّصِيرُ ۝ (انج. ۷۸) تم نمازو ادا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑلو۔ (جب پکڑلو گے تو) وہ تمہارا سر پرست بن جائے گا، وہ کتنا بہترین مولیٰ ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔

حضرت اپنی مجالس کے اختتام پر اکثر یہ آیت بھی پڑھا کرتے تھے۔ یا ایسا **الذِّينَ امْنَوْا اصْبِرُوا** اے ایمان والو! تم اپنے اندر صبر و ضبط پیدا کرو۔ میں یہ وہی الفاظ نقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو حضرت فرمایا کرتے تھے۔ اے ایمان والو! تم اپنے فرض منبصی پر مرثو و صابرُوا اور دوسروں کو مر منے کی تلقین کرتے رہو و رَابِطُوا اور تم اپنے آخری دم تک اس کے اوپر ڈالے رہو و **اتَّقُوا اللَّهَ** اگر تم پہیزگاری کو اختیار کرو گے تو **لَعْلَكُمْ تُفْلِحُونَ** (آل عمران: ۲۰۰) پھر کامیابی تمہارے قدم چوئے گی۔

## دل کے زخم کے لئے مرہم

اللہ رب العزت ہمیں تقویٰ اور پر ہیزگاری کے ساتھ حضرت مرشد عالم کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کی محبت کو دل میں ہمیشہ بہتر سے بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صاحبزادگان کو عمر نوح نصیب فرمائے، یہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یادگاریں ہیں، ان کے کندھوں پر اس وقت بڑا بوجھ ہے، اللہ رب العزت ان کو اس بوجھ سے عہدہ برآ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الولد سر لا بی الحمد للہ حضرت مولانا عبدالرحمٰن قاسمی مدظلہ العالی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جیسے باپ فوت ہو جائے تو چھوٹے بھائی بڑے بھائی کو دیکھ کر کچھ صبر اور سکون حاصل کر لیا کرتے ہیں، آج اس محفل میں وہ ہمارے بڑے بھائی کی حیثیت سے ہیں، وہ ہمارے والد کی جگہ ہیں، ان کو دیکھ کر پھر بھی کچھ ذہار س بندھ جاتی ہے۔ بلکہ دل کے زخم پر مرہم آ جاتی ہے۔


اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھیں۔ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائیں اور ہمارے محافظ اور نگہبان کے چلنے کے بعد اللہ رب العزت ہمیں بے سہارا نہ بنادیں اور اللہ رب العزت ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ کر دیں۔ ہم اس کی رحمت کے طلبگار ہیں، اس سے اس کی برکتیں مانگتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معاافی چاہتے ہیں کہ اے اللہ! تیرے ایک مقبول بندے کی دعائیں ہمارے شامل حال ہوتی تھیں، ہماری غلطیاں چھپ جاتی تھیں، اے اللہ! آج وہ دعائیں نہیں ہیں، لیکن تو ہمیں وہی حفاظت عطا فرمادینا اللهم لا تحرمنا اجرہ و لا تفتنا بعده اے اللہ! اپنے اس مقبول بندے کے بعد ہمیں کسی فتنے میں نہ ڈال دینا۔ اے اللہ! ہم ناپ

تول کے قابل نہیں، کہیں ہماری آزمائش نہ کر لینا، اگر تو نے ناپ تول کرنا شروع کر دی تو ہم میزان پر پورے نہیں اتر سکیں گے۔ رحمت کا معاملہ فرمانا۔ ہمارے حضرت نے بھی شفقت کا معاملہ فرمایا، ہم پہلے بھی فضلی رہے، تیرا فضل رہا اور اس سے کام چلتا رہا، اے اللہ! اب بھی رحمت فرمادینا اور ہمارے بیڑے کو بھی پار کرو دینا۔ (آمین ثم آمین)

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين



# اخلاق حمیده



اچھے اخلاق کا دوسرا نام ”اچھا لردار“ ہے۔ یاد رکھنا کہ کردار دیکھنے میں ایک بے قیمت سی چیز نظر آتی ہے لیکن انسان اس کے ذریعے بڑی سے بڑی قیمتی چیز کو خرید لیا کرتا ہے۔ دنیا تکوار کا تو مقابلہ کر سکتی ہے مگر کردار کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتی۔ ہمیشہ کردار کی فتح ہوتی ہے۔

## اخلاق حمیدہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰی وَسَلَّمَ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَفَیَ امَّا بَعْدُ!  
 اغُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝  
 وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ . وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ  
 صَلَّى اللّٰهُ عَلٰیهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ الْمُبَشِّرُونَ الْمُنَذِّرُونَ اَوْ كَمَا قَالَ عَلٰیهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَامُ .  
 سُبْخَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَّمَ عَلٰی الْمُرْسَلِينَ  
 وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِينِ ۝

### اچھے اخلاق والے انسان کا مقام

ایک عام دستور ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ جس درخت کا پھل اچھا اور بھاہو، خوبصورت بھی ہو اور ذاتے میں بھی لذیذ ہو، لوگ اس درخت کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اسے پانی بھی پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح جس انسان کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے پاس بیسمیں تو وہ فائدہ پہنچائے اور جو سمیت میں دوسروں کے کام آئے، ایسے بندے کو بھی دوسرا لوگ پسند کرتے ہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ (الرعد: ۲۷) اور جو انسانوں کو ففع پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زمین میں جمادیتے ہیں۔ دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لئے اس میں اچھے اخلاق پر بہت زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہ ایمان لانے

کے بعد سب سے افضل عمل خوش خلقی ہے۔ ایک اور حدیث تشریف میں فرمایا گیا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا ایمان والوں میں سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سماجھے ہوں۔ گویا اللہ رب العزت کے پاس یہ بندے کو تو لئے کا ایک معیار ہے۔ اس معيار کے ذریعے بندہ خود بھی اندازہ کر سکتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ اچھے اخلاق والے آدمی کو لوگ بھی پسند کرتے ہیں اور پروردگار عالم بھی اسے پسند فرماتے ہیں۔ لہذا جس انسان کو خوش خلقی نصیب ہو جاتی ہے اسے اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی نعمت نصیب ہو جاتی ہے۔ اچھے اخلاق کو انسان کی سیرت کہا جاتا ہے۔ جس طرح خوب صورت انسان کو دیکھنے سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں اسی طرح خوب سیرت انسان کے ملنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ ایسی وجہ ہے کہ نیک سیرت انسان سے ہر بندہ محبت کرتا ہے اور جب کسی انسان سے محبت ہو گی تو یقیناً اس کی خیرخواہی دل میں آئے گی۔ وہ پھر اس کی پشت پیچھے بھی اس کی خیرخواہی کرے گا۔

اسی لئے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے۔

اللهم حست خلقی فحسن خلقی  
(اے اللہ! جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے تو میرے  
اخلاق کو بھی اچھا کر دے)

## اچھے اخلاق کمال ایمان کی علامت ہیں

کسی بھی مومن کے ایمان کا اس کے اخلاق پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ اگر اس کا ایمان مضبوط ہے تو اس کے اخلاق خود بخود سور جائیں گے۔ کیونکہ

خوف خدا اس کو ہر قسم کی بد خلائقی کو ترک کرنے پر مجبور کر دے گا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے گا اور دوسروں کو راحت پہنچانے کی ہر ممکن بکوشش کرے گا۔

ای لئے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”مَوْمِنُونَ میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے“ سجان اللہ کیسا معیار بتایا ہے کہ کمال ایمان کی نفعی کثرت عبادات نہیں بلکہ اخلاق کا اچھا ہونا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے ان المؤمن لیدر ک بحسن خلقہ درجہ قائم اللیل و صائم النہار بے شک مؤمن بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے راتوں رات نماز میں کھڑے رہنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے آدمی کا درجہ پالیتا ہے۔

### سب سے بہترین چیز

ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور نبی کریم ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ سب سے بہترین چیز کوئی ہو سکتی ہے جو کسی کو عطا کی گئی ہو۔ آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا ایسی چیز حسن اخلاق ہے۔

تو اچھے اخلاق سب بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جس کے پاس بھی یہ ہوتا ہے اس سے بہت نفع اٹھاتا ہے۔

### کردار کی فتح

اچھے اخلاق کا دوسرا نام ”اچھا کردار“ ہے۔ یاد رکھنا کہ کردار دیکھنے میں ایک بے قیمت سی چیز نظر آتی ہے لیکن انسان اس کے ذریعے بڑی سے بڑی

قیمتی چیز کو خرید لیا کرتا ہے۔ دنیا تکوار کا تو مقابلہ کر سکتی ہے مگر کردار کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتی۔ ہمیشہ کردار کی فتح ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھیں فتح المدینۃ بالاخلاق کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مدینہ کو اخلاق کے ذریعے فتح فرمایا تھا۔

## اُخلاق کے مراتب

اُخلاق کے تین مراتب ہیں

### پہلا مرتبہ

اُخلاق کا ایک مرتبہ وہ ہے جو یہودیوں کو ملا اسے اُخلاق حمیدہ کہتے ہیں۔ وہ یہ تھا کہ تم لوگوں کے ساتھ برابری کا معاملہ رکھو۔ آئَ النُّفْسَ بِالنُّفْسِ وَ الْغَيْنِ بِالْغَيْنِ (المائدہ: ۲۵) جان کے بد لے جان اور آنکھ کے بد لے آنکھ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جتنا کوئی تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے اپنا بدله لینے کے لئے تم بھی اتنی ہی تکلیف پہنچا سکتے ہو۔ البتہ اس سے زیادہ تکلیف نہ پہنچانا۔

### دوسرा مرتبہ

اُخلاق کا ایک مرتبہ عیسائیوں کو بھی ملا۔ ان کو یہودیوں سے بلند مرتبہ کا اُخلاق ملا ”جسے“ اُخلاق کر بمانہ کہتے ہیں۔ وہ اُخلاق یہ تھے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو تم اس کو معاف کر دو۔ اسی لئے نصاری جو پہاڑی کا وعظ

دہراتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے ایک رخسار پر کوئی تھپڑ لگائے تو تم اپنا دوسرا رخسار بھی اس کے سامنے پیش کر دو۔ وہ اسے اخلاق کا بڑا مرتبہ سمجھتے ہیں۔

## تیسرا مرتبہ

اخلاق کا ایک مرتبہ امت مسلمہ کو بھی ملا جسے ”اخلاق عظیمہ“ کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے محبوب ﷺ! وَ إِنَّكَ لَغُلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (آل عمران: ۲۳) اور آپ تو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ اخلاق عظیمہ یہ ہیں فَاغْفِرْ لَهُمْ اے محبوب ﷺ! انہیں معاف کر دیجئے۔ وَ اسْتَغْفِرِ لَهُمْ اور ان کے لئے اللہ کے حضور استغفار کیجئے۔ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (آل عمران: ۱۵۹) اور ان کو اپنے مشورے میں شامل بھی فرمائیجئے۔ یعنی اپنے بھائی کی غلطی کو فقط معاف ہی نہیں کرنا بلکہ اس کے لئے اللہ کے حضور استغفار بھی کرنی ہے اور پھر پہلے والے تعلقات کو حال بھی رکھنا ہے۔ اور انہیں اپنے مشوروں میں شامل بھی رکھنا ہے۔ اسی لئے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفت قرآن میں ارشاد فرمائی کہ وَ الْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (آل عمران: ۱۳۳) وہ غصے کوپی جانے والے ہوتے ہیں اور وہ انسانوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں سے محبت فرماتے ہیں۔ گویا ہم نے دوسروں کو فقط معاف ہی نہیں کرنا بلکہ ہم نے ان کی غلطیوں کے باوجود ان کو اپنے قریب کرنا ہے۔ اسی لئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَ لَا تَسْتُوِي الْخَسْنَةُ وَ لَا السَّيْئَةُ اذْفَعُ بِالْأَتْسَى هی اَخْسَنُ تم برائی کو اچھائی کے ساتھ دھکیلو۔ جب تم برائی کا بدله

اچھائی کے ساتھ دو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا فَإِذَا لَدُنْكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَهُ  
وَلِيٌّ حَمِيدٌ (حمد بسما الله الرحمن الرحيم: ۳۷) کہ تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہے وہ بندہ  
پھر تمہارا جگری یا ربن جائے گا۔ یوں دشمنی دوستی میں بدل جائے گی اور نظرتوں  
کی بجائے دلوں میں تھبٹیں پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ  
وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ اور جوانانوں کو نفع پہنچاتا ہے اللہ  
تعالیٰ اسے زمین میں جمادیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے  
قدم زمین میں جمادیا کرتے ہیں۔ یہ ایک خدائی قانون ہے کہ جو بندہ دوسروں  
کے فائدے کے لئے زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کے اپنے قدم زمین میں  
جماعتے گا۔

## دین اسلام کا حسن

ہمیں چاہئے کہ ہم اللہ کے بندوں سے اللہ کے لئے محبت کریں۔ ایک  
روایت میں آیا ہے کہ الخلق عیال اللہ کے مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے۔ یاد  
رکھنا کہ جو اللہ تعالیٰ کی عیال سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت  
فرماتے ہیں۔ اسی لئے فرمایا ارحموا من فی الارض يرحمکم من فی  
السماء تم رحم کھاؤ جو زمین پر ہے، تم پر وہ رحم کرے گا جو پروردگار آسمانوں میں  
ہے۔ اس لئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائیں تو پھر ہمیں  
چاہئے کہ ہم اللہ کے بندوں پر رحم کریں۔ اللہ کے بندوں سے اللہ کی نسبت  
سے محبت رکھیں۔ دین اسلام کا حسن دیکھئے کہ ایک تو مومن سے محبت کرنا ہوتی  
ہے، یہ تو بڑی بات ہے، یہ تو ہونا ہی چاہئے، عام انسانوں سے بھی رحم سے پیش  
آنے کی تلقین کی گئی ہے۔

## دنیا میں بھائی کی اہمیت

ایمان والوں سے محبت اس لئے بھی ہونی چاہئے کہ قرآن مجید میں ہے کہ **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ** (الحجرات: ۱۰) مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یاد رکھنا کہ دنیا اور آخرت میں بھائی ہی کام آتا ہے ہیں۔ قرآن عظیم الشان سے ایک دلیل سن لیجئے۔ جب حضرت موسی علیہم کو اللہ تعالیٰ نے نوبت سے سرفراز فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے موسی! اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغِي (النُّزُعَةُ: ۳۰) کہ آپ کے فرعون کے پاس جائیں کیونکہ وہ با غشی طاغی بنا پھرتا ہے۔ فرعون اپنے لاوٹشکر کے ساتھ ایک منظم بادشاہ تھا۔ اس کی اپنی گورنمنٹ تھی۔ چونکہ اس کی گورنمنٹ کے نظام سے مکرانا تھا اس لئے حضرت موسی علیہم نے محسوس کیا کہ میں اکیلا ہوں۔ اس لئے میرا بھی کوئی مدگار ہونا چاہئے۔ اب مدگار تلاش کرنے کے لئے حضرت موسی علیہم کی پہلی نظر اپنے بھائی پر پڑی۔ جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں فرمایا گیا رَبِّ اَشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ. وَ يَسِرْ لِيْ اَمْرِيْ. وَ اَخْلُلْ عُقْدَةَ مِنْ لَسَانِيْ. يَفْقَهُوا قَوْلِيْ. وَ اَجْعَلْ لِيْ وَزِيرًا مِنْ اَهْلِيْ. هَارُونَ اخِيْ. (طہ: ۲۵ تا ۳۰) یعنی دنیا میں بھی جب سر پر بوجھ پڑتا ہے تو بھائی کام آتا ہے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے اب آخرت میں دیکھتے ہیں کہ وہاں بھائی کیسے یاد آئے گا۔

## آخرت میں بھائی کی اہمیت

قیامت کے دن جب انسان پر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آئے گا اور اس پیتناک اور وحشتناک دن کی حقیقت اس کے سامنے کھلے گی تو

پھر انسان پناہ گاہ ڈھونڈے گا۔ وہاں بھی مجرم بندہ اپنے بھائی کی طرف رجوع کرے گا۔ قرآن مجید میں ارشادِ باتی ہے یوْمَ يَفْرُّ الْمُرْءُ مِنْ أَخْيْهِ (عبس: ۳۲) وہ اپنے بھائی کی طرف رجوع کرے گا۔ گویا دنیا اور آخرت میں بھائی ہی کام آئے گا۔

## ہماری سرد مہری

لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آج ہم جب سب سے پہلے چھری چلاتے ہیں تو بھائی کے رشتے پر چھری چلاتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کے گھروں میں بھی یہی حال ہے۔ چھوٹی چھوٹی اور معمولی معمولی باتوں پر رشتہوں ناطوں کو توڑ دیتے ہیں۔

## جھگڑوں کا خاتمه

ایک حدیث مبارک ایسی ہے، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو دنیا کے سب جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يَحْبَبْ لِآخِيهِ مَا يَحْبَبْ لِنَفْسِهِ  
(قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے (مومن) بھائی کیلئے وہی پسند نہیں کرتا جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے)

اب بتائیں جب ہر بندہ دوسروں کے ساتھ دیساہی بر تاؤ رکھے گا جیسا وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے تو پھر تعلقات کشیدہ ہونے کی نوبت آئے گی؟ بالکل نہیں آئے گی۔ آج جو بھائیوں کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں

اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے نہ اس کے حقوق کی پرواہ کی جاتی۔

## صلہ عرجی کا حکم

دین اسلام نے ہمیں صلہ عرجی کا درس دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب ﷺ نے ارشاد فرمایا صل من قطعک تو اس سے جوڑ جو تجھ سے توڑے و اعف عن من ظلمک اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے و احسن من عصا الیک اور جو تجھ سے برائی کرے تو اس سے اچھا سلوک کرے۔ ہمارے پیارے محبوب ﷺ نے ان تین باتوں کے ذریعے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے جو شخص ان تین باتوں پر عمل کر لے اس کی زندگی سورت سکتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی جو امع الکلم ہمارے محبوب ﷺ کو عطا کر دیئے گئے کہ اگر ان میں سے کسی ایک بات پر عمل کر لیا جائے تو انسان کی ہدایت کے لئے وہ کافی ہو جائے۔

## قطع عرجی کا انجام

جو لوگ رشتہ ناطوں کو توڑ دیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو بڑے ناپسند ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت شب قدر میں بڑے بڑے مجرموں کو معاف فرمادیتے ہیں لیکن چند بندے ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ شب قدر میں بھی معاف نہیں کرتے، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جو قطع عرجی کرنے والا ہو۔ مگر آج تو حالت یہ کہ بہن بہن سے نہیں بولتی، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بچے ماں باپ سے ناراض پھرتے ہیں اور وہ رشتے جن کو اللہ

تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا آج لوگ ان کو تو ذکر خوش ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نوجوان اپنے دوست کے ساتھ رہ کر خوش ہو گا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ کر وہ تنگی محسوس کرے گا۔ آج کے نوجوان کا یہی حال ہے۔ کسی نوجوان سے پوچھ لیں کہ آپ کی کیا پریشانی ہے؟ تو وہ کہے گا جی بس گھر والے پابندیاں لگاتے ہیں، امی کہتی ہے کہ تمہیں دس بجے سے پہلے گھر آنا چاہئے، ابو کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لئے پابندی سے انھنا چاہئے، بس ان کو تو ان پابندیوں کے لگانے کے سوا کوئی اور کام ہے ہی نہیں۔ اور جب دوستوں کی محفل میں جاتے ہیں تو وہ دوست انہیں آزادی سکھاتے ہیں اس لئے نوجوان اپنی فلاح اسی میں سمجھتے ہیں کہ گھر کی پابندیوں سے ہماری جان چھوٹے اور دوستوں میں زندگی گزاریں۔ یاد رکھئے کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ بازویہ سوچنے لگے کہ میں تو جسم کے ساتھ بندھا ہوا ہوں۔ پچھ کر ہی نہیں سکتا اس لئے میری فلاح اس میں ہے کہ میں جسم سے جدا ہو جاؤں۔ اگر بازو جسم سے جدا ہو جائے گا تو اس میں کیزے پڑیں گے، اس کو کتنے چباٹیں گے، بھنپھوڑیں گے اور گھسیٹیں گے کیونکہ یہ بے جان ہو چکا ہو گا۔ اس کی زندگی اس میں ہے کہ یہ جسم کے ساتھ مل کر رہے۔ اسی طرح اولاد کی بھی زندگی اس میں ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ مل کر رہے۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، البر کة مع اکابو کم تمہارے لئے برکت بڑوں کے ساتھ رہنے میں ہے۔ اس لئے ہم بڑوں کے ساتھ مل کر رہنے میں اپنی عافیت سمجھیں۔

## بے مثال کردار

اچھے اخلاق پیدا کرنے کے لئے محنت کرنا پڑتی ہے۔ زبانی باتیں کرنا آسان ہے لیکن کردار کو پیش کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ سابقہ انبیاء جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کی قوموں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی حقانیت کی کیا دلیل ہے تو انہوں نے اپنے مجزے پیش کئے۔ کسی نے اوثقی کو پیش کیا اور کسی نے کہا کہ میں مادرزاد اندھوں کو پینا کر سکتا ہوں۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوٰۃ و السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی نبوت کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کیا میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی نہیں گزاری؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں جوانی کی زندگی تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، عجیب بات ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ و السلام کو مجنون اور جادوگر تھا کہا گیا مگر کسی کو جھوٹا کہنے کی جرأت نہ ہوئی یا یہ کہ اذ اللہ ان کی نگاہ میلی تھی یا ان کے کردار کی یہ بات کچھ تھی۔ نہیں، کافران کے دشمن تھے، مجنون اور ساحر تو کہتے رہے مگر محبوب نہیں کا کردار اتنا کھلا دھلا اور صاف تھا کہ جانی دشمنوں کو بھی آپ ﷺ کے کردار پر بات کرنے کی جرأت نہ ہو سکی۔

## خیر خواہی کی تعریف

ایمان والوں کو چاہئے کہ ان کی سوچ ہمیشہ ثابت ہو۔ منفی سوچ سے بچیں۔ دوسروں کی برا بیوں کو بھی نظر انداز کر دیا کریں اور اپنی طرف سے ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں۔ اس کو خیر خواہی کہتے ہیں۔ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ ہوتا ہے جو دوسروں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوٰۃ و

السلام نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ کہ دین سرا سر خیر خواہی ہے۔ جسے کہتے ہیں ناں کہ فلاں بندے نے تو ولفظوں میں بات سمجھادی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان ولفظوں میں پورا دین سمجھادیا۔

### دین اور خیر خواہی کا تلازم

عربی میں ایک مبتداء ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے۔ عام طور پر ایک معرفہ ہوتا ہے اور دوسرا انگرہ۔ لیکن یہاں پر عجیب معاملہ ہے لفظ الدین بھی معرفہ ہے اور النصیحہ بھی معرفہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب دونوں کو معرفہ لایا جائے تو وہ لازم و ملزم ہوا کرتے ہیں اور ان میں چولی دامن کا ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اس کا یہ معنی ہے کہ جو دین ہے وہ سرا سر خیر خواہی ہے۔ اور جو کچھ خیر خواہی ہے وہ سراسر دین ہے۔ آپ کو جہاں دین ملے گا وہاں آپ کو خیر خواہی ملے گی اور جہاں آپ کو خیر خواہی ملے گی سمجھ لینا کہ وہاں دین موجود ہے۔ اور جہاں آپ کو مسلمان دوسرے مسلمان کا بد خواہ نظر آئے تو سمجھ لینا کہ دین درمیان میں سے نکل چکا ہے

### مؤمن اور خیر خواہی

مؤمن کا تو کام یہ ہے کہ ساری دنیا کی خیر خواہی کرے، ہر ایک کو اس سے فائدہ پہنچے۔ بجائے کسی کو تکلیف پہنچانے کے ان کے دکھ درد میں کام آئے۔ اس کا طرز زندگی ایسا ہو کہ اس کے عزیز رشتہ دار، پڑوی، محلہ دار، دوست احباب۔ سب کو یقین ہو کہ یہ ایسا با اخلاق انسان ہے کہ ہمیں اس سے تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔

ایک مرتبہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضور ﷺ تشریف لائے اور ان کے پاس کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سے اچھا کون ہے اور برا کون ہے؟ سب خاموش رہے۔ آپ نے یہ سوال تین مرتبہ دہرا�ا۔ پھر ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ ضرور بتائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جس سے لوگ خیر کی امید رکھتے ہوں اور شر سے اطمینان رکھتے ہوں۔ اور بدترین شخص وہ ہے جس سے لوگ خیر کی توقع نہ رکھتے اور اس کے شر سے خوف کھاتے ہوں۔

ویکھیں کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کس قدر جامع انداز میں یہ بات کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ بلکہ فرمایا کہ اپنا طرز زندگی ایسا رکھو کہ لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ساری دنیا سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے لیکن اس بندے سے ہمیں نقصان نہیں پہنچ سکتا۔

## عبداللہ بن مبارکؓ کے پڑوں کی قیمت

”ہمبرگ“ جرمنی کا ایک شہر ہے۔ وہاں ہمارے ایک دوست رہتے ہیں۔ وہ جرمن ایئر لائن میں کام کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے گھر ٹھہرنا ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مسجد یہاں سے ایک گھنٹہ کے فاصلے پر ہے، آپ نے مسجد سے اتنا دور کہاں گھر لے لیا؟ وہ کہنے لگا، یہاں ہمارے بہت اچھے ہیں، بڑے پڑھے لکھے جرمن لوگ رہتے ہیں اور وہ مسلمانوں کو یہاں کرایہ پر بھی مکان کیوں نہیں دیتے۔ بس مجھے یہاں مکان مل گیا ہے اور یہیں رہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کو کرایہ پر مکان کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے اور جس جگہ یہ

مکان بنایتے ہیں وہ پوری کمیونٹی کا گندہ پوانسٹ بن جاتا ہے، اس لئے وہ ان کو کرایہ پر مکان نہیں دیتے۔

میں نے کہا، اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں؟ کہنے لگے، بتائیے۔ میں نے کہا کہ جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے اس وقت یہ حالت تھی کہ حضرت عبد اللہ بن مبارکؓ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اے مکان یعنی کی ضرورت پیش آئی۔ ایک آدمی خریدنے کے لئے آیا تو اس نے پوچھا کہ آپ یہ مکان کتنے کا دیں گے؟ وہ یہودی کہنے لگا، دو ہزار دینار کا۔ اس نے کہا، جی اس جیسا مکان تو یہاں ایک ہزار دینار کا ملتا ہے۔ یہودی اس کے جواب میں کہنے لگا کہ واقعی ایک ہزار دینار تو اس مکان کی قیمت ہے اور دوسرا ہزار دینار عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس کی قیمت ہے۔ سبحان اللہ

## بندہ مومن کا مقام

ابوداؤ شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام طواف فرمائے تھے۔ طواف کرتے ہوئے آپ ﷺ نے کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے کعبہ! تجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا کی ہے لیکن حرمۃ المؤمن ارجح من حرمۃ الكعبۃ مومن کا احترام اللہ کے نزدیک تیرے احترام سے زیادہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت مطہرہ نے مومن کو ایک مقام عطا کیا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ہم کعبہ کی طرف تو منہ کر کے سجدے کریں اور کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعا میں بھی مانگیں اور بوسے بھی دیں، لیکن مومن سے نفرت کریں، اے ایذا اپنچا میں اور اس کی بد خواہی کرتے پھریں تو پھر ہمارا ایمان کیا ہوگا؟ مومن اپنوں اور پر ایوں سب کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ ہم دین کو

سمجنے کی کوشش کریں کہ دین ہم سے چاہتا کیا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا،

شنیدم کہ مردان راہ خدا  
دل دشمن ہم نہ کر دند شک  
تزا کے میر شود ایں مقام  
کہ با دوستان ہست پیکار جنگ

کہ اللہ والوں کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ تو دشمنوں کے دلوں کو بھی  
شک نہیں کیا کرتے تھے، تجھے یہ مقام کہاں سے نصیب ہوا، تو اپنوں سے برس  
پیکار ہے۔ ہم اپنوں کو دکھ دیتے پھر تے ہیں۔

## غلطیوں کی تلاش

چنانچہ حالت یہ ہوتی ہے کہ یہوی نے اپنے میاں کی غلطیوں پر دور بین فٹ  
کی ہوتی ہے اور میاں نے اپنی یہوی کی غلطیوں پر خورد بین فٹ کی ہوتی ہے۔  
کہنے کو تو وہ میاں یہوی ہوتے ہیں اور زندگی کے ساتھی ہوتے ہیں مگر حالت یہ  
ہوتی ہے کہ وہ اس کی غلطیوں کی تلاش میں ہے اور وہ اس کی غلطیوں کی تلاش  
میں ہے۔ وہ اس کو نیچا دکھانے کے درپے ہے اور وہ اس کو نیچا دکھانے کے  
درپے ہے۔ کیا مسلمانی باقی رہی؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے لباس کہا ان کی یہ حالت  
ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: «لِتَامُ لَكُمْ وَأَتُّمْ لِيَاسَ لَهُنَ» (البقرة: ۱۸۷) وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس انسان کی بد صورتی کو  
خوبصورتی میں بدل دیتا ہے اور جسم کے عیوب کو چھپا دیتا ہے۔ جس کو اللہ نے  
لباس کہا ہم اس کے نقائص ذمہ دار ہے ہوتے ہیں۔ بلکہ چھی باتیں یہ ہے کہ جو  
ہم سے زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا ہی ہم سے زیادہ شک ہوتا ہے۔ یہ کتنی عجیب

بات ہے

## ستر پوشی کی فضیلت

میرے دوستو! شریعت مطہرہ نے معاف کر دینے کو بہت پسند فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو انسان جتنا جلدی دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرے گا اللہ رب العزت اتنا ہی جلدی قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو معاف فرمائیں گے۔ اور جو انسان دوسروں کے عیبوں کی ستر پوشی کرے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے عیبوں کی ستر پوشی فرمائیں گے۔ یہ باتیں آج دلوں میں بخانے کے قابل ہیں۔

## مؤمن کے دل کو خوش کرنے کی فضیلت

ایک روایت میں ہے کہ جس نے کسی مؤمن کے دل کو خوش کیا اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں۔ وہ فرشتہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی حمد و شکران کرتا رہتا ہے اور اس کے ذکر کا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے میرے کسی امتی کی حاجت پوری کی تاکہ اس کا دل خوش کرے تو اس نے مجھے خوش کیا اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا اور جس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔

ان احادیث کے پڑھنے کے بعد ہم اپنے اوپر بھی غور کریں کہ کیا ہم نے کبھی کوئی کام فقط اس لئے کیا ہے کہ میرے مؤمن بھائی کا دل خوش ہو جائے۔

اپنے دوسرے بھائیوں کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں کا پورا کرتا ہندے کے عمر بھر کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن سکتی ہے۔

ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جب کوئی مومن اپنے مومن بھائی کے کام کیلئے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے تین خندقیں دور کر دیتے ہیں اور خندق کی چوڑائی زمین آسمان کے درمیان میں فاصلہ کے برابر ہے۔

ایہ حدیث میں ہے کہ جس نے کسی پریشان حال کی مدد کی خدا اس کیلئے تہتر مغفرت میں لکھ دے گا، ان میں سے ایک میں اس کے سب کام بن جائیں گے اور بہتر قیامت کے دن اس درجہ بلند کرنے کے لئے ہوں گی۔ سبحان اللہ

## زبان کی آفتیں

میرے دوستو! اگر ہم کسی کے دل کو خوش نہیں کر سکتے تو اس کے دل کو رنج بھی نہ پہنچایا کریں۔ یاد رکھنا کہ یہاں یوں میں سے سب سے بری دل کی یہاں ری ہے اور دل کی یہاں یوں میں سے سب سے بری دل آزاری ہے۔ مگر ہم بڑی دیدہ دلیری سے ہو سروں کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں۔ خاوند بیوی کو کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ وہ بیچاری سارا دن روئی رہ جاتی ہے اور بیوی خاوند کو ایسی بات کہہ دیتی ہے کہ اس بیچارے کا سکون بر باد ہو جاتا ہے۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ تکوار کے زخم تو مندل ہو جاتے ہیں مگر زبان کے زخم مندل نہیں ہوا کرتے۔ یہ زبان ان رشتؤں کو بھی توڑ دیتی ہے جن رشتؤں کو انسان تکوار کے ذریعے بھی نہیں توڑ سکتا۔ آج ہمیں زبان چلانے کی بڑی عادت ہے، ہر وقت ہی بولتے رہتے ہیں، سننے کی عادت نہیں ہے فقط بولنے کی عادت ہے۔

## بدزبانی کا انجام

ایک مرتبہ ایک شخص نے آکر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ فلاں ایک عورت ہے جو نماز، روزہ اور صدقہ کثرت سے کرتی ہے۔ لیکن وہ اپنے پڑویوں سے بدزبانی کرتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا وہ عورت دوزخ میں جائے گی۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ ایک عورت ہے وہ نفل روزے، نمازیں اور صدقات کم ادا کرتی ہے لیکن دوسروں کو اپنی زبان سے ایذا نہیں دیتی، یہ سن کر آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ عورت جنت میں جانے والی ہے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ بد خلقی کس قدر بری چیز ہے کہ دوسروں سے بدزبانی کرنے اور ایذا دینے والے کی نفلی عبادات میں بھی اس کے کام نہیں آتیں۔

## غصہ پینے کی فضیلت

حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس بندے کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ اس کا بدلہ بھی لے سکتا ہو مگر وہ اللہ کے لئے معاف کر دے اور غصے کا گھونٹ لی جائے تو اس غصے کے گھونٹ کو پینے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ کتنے نفع کا سودا ہے۔ اس لئے ہم اللہ کے لئے اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا کریں۔ ہم بدلہ لے بھی سکتے ہوں تو نہ لیا کریں۔

## بیوی سے حسن سلوک کا بدلہ

حضرت اقدس تھانویؒ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کی بیوی سے غلطی ہو گئی۔ اتنا بڑا نقصان تھا کہ اگر وہ چاہتا تو اسے طلاق دے دیتا۔ کیونکہ وہ حق بجانب تھا۔ لیکن اس نے اسے اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا، سناؤ بھی! آگے کیا بنا؟ کہنے لگا کہ بس اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مہربانی فرمادی اور میرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس نے پوچھا، کس وجہ سے آپ کی معافی ہوئی؟ وہ کہنے لگا کہ ایک ایسی بات تھی جو میں بھول ہی گیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ میری بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، میں اگر چاہتا تو سزا دیتا، طلاق دے دیتا مگر میں نے اسے اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا۔ پروردگار نے کہا، تو نے اسے میری بندی سمجھ کر معاف کر دیا تھا آج میں نے تجھے اپنا بندہ سمجھ کر معاف کر دیتا ہو یا۔

## تربیت کا فقدان

بلکہ کئی دفعہ تو یہ بھی دیکھا کہ دو بندے بحث کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دونوں بول رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات کوئی بھی نہیں سن رہا ہوتا۔ یوں لگتا ہے کہ ہمیں کسی نے زندگی گزارنے کا سلیقہ ہی نہیں سکھایا۔ تعلیم تو سکولوں اور کالجوں سے پائیتے ہیں مگر ہم تربیت کس سے لیتے ہیں؟ کسی سے بھی نہیں۔

میرے دوستو! تربیت اللہ والوں سے ملتی ہے۔ آج اللہ والوں کے پاس

آتے نہیں اور تربیت پاتے نہیں اس لئے انسان نہیں بن پاتے اور اللہ کے بندوں کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ ایم اے پاس بندہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ پھانک بند ہے، وہ بجائے لائے میں کھڑا ہونے کے ادھر سے موز کر آنے والی ٹریفک کے راستے میں گاڑی کو کھڑا کر دے گا۔ تیرے ایم اے پاس ہونے کا کیا فائدہ؟ تجھے تو اتنی بھی سمجھنہ نہیں کہ جب پھانک کھلنے گا تب ہی گاڑی آگے جائے گی۔ پھر جب پھانک کھلتا ہے تو ایک دوسرے کیلئے ہارن بجارتے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو کھاجانے والی نظر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم میں اتنی بھی الہیت نہیں ہے کہ اتنی تعلیم کے بعد ہم محسوس کر سکیں کہ دوسروں کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ یہ تربیت اللہ والوں کی صحبت میں بینہ کر ملتی ہے۔ آج اس تعلق کو اختیار کرنا بڑا برا سمجھتے ہیں کیونکہ اس کے بعد کوئی روک ٹوک کرے گا اور سمجھائے گا۔ جب کہ ہمارا نفس تو نہیں چاہتا کہ کوئی ہمیں سمجھائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھائے سمجھائے پیدا ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم معاشرے میں دوسروں کو سکھ پہنچانے کی بجائے الثاث دکھ پہنچا رہے ہوتے ہیں۔

### صحبت کا اثر

ہم ساتویں آٹھویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ میرا ایک کلاس فیلو ایک دیہات سے آتا تھا۔ وہ ہمیں دیہات کے بارے میں باتیں سنایا کرتا تھا کہ گندم ایسے اگتی ہے، ایسے ہل چلاتے ہیں، ایسے پانی لگاتے ہیں اور ایسے کنویں ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ چیزیں کبھی دیکھی نہیں تھیں کیونکہ شہری زندگی گزارنے والے تھے اس لئے ہمیں اس کی باتیں بڑی عجیب لگتی تھیں۔

ایک مرتبہ اس نے ہمیں دعوت دی اور کہا کہ جولائی اور اگست دو مہینے کی سکول میں چھٹیاں ہو رہی ہیں، آپ چھٹیوں میں ہمارے ہاں آنا، ہم آپ کو دیہات دکھائیں گے۔ ہم نے دعوت قبول کر لی۔ چنانچہ ہم نے گھر آ کر تذکرہ بھی کر دیا کہ ہمارا ایک اچھا کلاس نیلو ہے، اس نے ہمیں اپنے ہاں آنے کی دعوت دی ہے اور ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم جا کر دیہات دیکھیں۔ بھائی نے کہا، بہت اچھا۔ ہم کسی دن آپ کو لے جائیں گے۔ چنانچہ ایک دن بھائی لے گئے۔ ہم دیہات میں خوب گھومے پھرے۔

وہاں پر جب ہم ایک کھیت میں پہنچ تو ہم نے دیکھا کہ وہاں گو بر پڑا ہوا ہے۔ ہماری سمجھ سے یہ بات باہر تھی کہ خشک گو بر کا ڈھیر کھیت میں کیوں پڑا ہے۔ ہم نے ایک کسان کو دیکھا کہ وہ اس گو بر کو منٹی میں ملارہا تھا۔ اب ہمیں اور بھی زیادہ عجیب بات لگی۔ لہذا ہم نے حیران ہو کر اس کسان سے پوچھا، جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، یہاں میں بزری بیجوں گا۔ ہم نے کہا، ادھر تو آپ بزری کا نجع ڈالیں گے اور ادھر آپ یہ گندگی اور بد بودار چیزیں میں ملارہے ہیں۔ وہ کہنے لگا، آپ شہر کے رہنے والے ہیں، آپ کی نظر میں تو یہ گندگی اور بد بودار نجاست ہے لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہم اس کو زمین میں اس لئے ملاتے ہیں کہ جب اس کے بعد ہم زمین میں بزری بوئیں گے تو یہ بزری کو فائدہ دے گی، گویا ہمارے لئے یہ کھاد کا کام دیتی ہے۔

اس وقت میری چھوٹی عمر تھی۔ لہذا بات کو پوری طرح نہ سمجھ سکا۔ آج کبھی کبھی لڑکپن کا وہ واقعہ یاد آتا ہے تو تب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اے بندے اجسے ہم گندگی کہتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں اگر اس گندگی کو بھی کسی

کھیتی میں ڈال دیتے ہیں تو وہ بھی ساتھ رہ والی کھیتی کو فائدہ دیتی ہے۔ تو موسم ہو کر بھی اگر ساتھ رہنے والے کو فائدہ نہیں دیتا تو معلوم ہوا کہ تو گندگی اور نجاست سے بھی گیا گزر رہے۔

## غور طلب بات

آج ہم ذرا اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں۔ دن بدن ہماری اخلاقی حالت گرتی جا رہی ہے۔ وہ مہر و محبت اور وفا میں نہیں رہیں جو پہلے ہوا کرتی تھیں۔ زنجیں اور کدوں تین ہمارے معاشرے میں کچھ اس طرح سراستہ کر گئی ہیں کہ بعض و عناد اور جھگڑا افساد اب معمول کی باتیں ہو گئیں ہیں۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی قطعہ رحمی کرنے والا موجود ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی بے برکتی اسی وجہ سے ہے کہ ہماری قوم میں اتحاد و یگانگت کی بجائے کینہ و حسد اور تاتفاقی کا دور دورہ ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا ظرف بڑا کریں اور دوسروں کی خیرخواہی کرنا سکیں۔ اس کیلئے ہمیں اپنے آپ سے پہل کرنا ہو گی اور بدھلقاتی کا جواب خوش خلقی سے دینا ہو گا۔

## خواجہ نظام الدین اولیاء کی نصیحت

ایک مرتبہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا۔ اس نے آپ کے سامنے اپنے بھائی کی شکایتیں شروع کر دیں کہ جی وہ مجھے بڑا شک کرتا ہے اور ہر وقت وہ میرے راستے میں کانٹے بوتا رہتا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس سے بدل لوں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

نے یہ سن کر اس کو نصیحت فرمائی کہ اے بھائی! اگر تیرے راستے میں کوئی کائنے بچھائے تو تو اس کے راستے میں کائنے نہ بچھانا ورنہ پوری دنیا میں کائنے ہی کائنے ہو جائیں گے۔

اللہ رب العزت ہمیں اچھے اخلاق والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



## ﴿مناجات﴾

دل مغموم کو مسرور کر دے  
 دل بے نور کو پرنور کر دے  
 فروزاں دل میں شمع طور کر دے  
 یہ گوشہ نور سے معمور کر دے  
 مرا ظاہر سنور جائے الہی  
 مرے باطن کی ظلمت دور کر دے  
 مئے وحدت پلا مخمور کر دے  
 محبت کے نشے میں چور کر دے  
 نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب  
 جنہیں تیری ادا مغزور کر دے  
 ہے میری گھات میں خود نفس میرا  
 خدا یا اس کو بے مقدور کر دے  
 دل مغموم کو مسرور کر دے  
 دل بے نور کو پرنور کر دے

## ﴿مناجات﴾

آہ جاتی ہے فلک پر اثر لانے کیلئے  
 پاولو! بہت جاؤ دید و راه جانے کے لئے  
 اے دعا! عرض کر عرش الہی تھام کر  
 اے خدا! اب پھیر دے رخ گردش ایام کے  
 صلح تھی کل جن سے اب وہ برس پیکار ہیں  
 وقت اور تقدیر دونوں درپے آزار ہیں  
 ڈھونڈتے ہیں اب مدادا سوزش غم کے لئے  
 کر رہے ہیں زخمی دل فریادِ مرہم کے لئے  
 رحم کر اپنے نہ آئین کرم کو بھول جا  
 ہم بچھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا  
 خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے  
 آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے  
 خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں  
 کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں  
 حق پرستوں کی اگر کی تو نے دلبوئی نہیں  
 طعنہ دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں  
 (آغا شر)

## مکتبۃ الفقیر کی کتب ملنے کے مراکز

- دارالعلوم جھنگ، پاکستان 0471-622832, 625707
- مدرسه تعلیم الاسلام، سنت پورہ فیصل آباد 041-618003
- مسجد الفقیر، گلشن بلاک، اقبال ٹاؤن لاہور 042-5426246
- جامعہ دارالهدی، جدید آبادی، بنوں 0928-621966
- دارالمطائف، نزد پرانی ٹینکی، حاصل پور 0696-42059
- ادارہ اسلامیات، 190 ائمکی لاہور 7353255
- مکتبہ مجددیہ، اردو بازار لاہور
- مکتبہ رشیدیہ، راجہ بازار اوپنڈی
- اسلامی کتب خانہ، بنوی ٹاؤن کراچی
- مکتبہ قاسمیہ، بنوی ٹاؤن کراچی
- دارالافتیاف، اردو بازار کراچی
- عبد الوہاب، ہنچاب کالوٹی، نزد رضوان مسجد کراچی 021-5877306
- مکتبہ حضرت مولانا ناصر الدین القیار احمد علی العالی میں بازار، سرائے نور گل 09261-350364
- حضرت مولانا قاسم منصور صاحب ٹیپو مارکیٹ، مسجد اسامہ بن زید، اسلام آباد 051-2262956
- جامعۃ الصالحات، محبوب شریف، ڈھونک مستقیم روڈ، پیر وحائی موڑ پشاور روڈ اوپنڈی

مکتبۃ الفقیر 223 سنت پورہ فیصل آباد